

علتِ ربو میں فقہائے کرام کا اختلاف اور کرنسی نوٹ پر اس کا اثر: ایک فقہی اور تنقیدی جائزہ

Difference of Jurists' Opinions regarding the Effective Cause of Interest and its Impact on Currency Note: A Juristic and Critical Study

Dr. Asad Ullah

Lecturer, Faculty of Shariah and Law, International Islamic University, Islamabad

Yasir Ahmad Zeerak

PhD Scholar, Editor/Publication Officer, Council of Islamic Ideology, Govt. of Pakistan

Abstract

There has been a difference of opinion among the jurists regarding the Shariah ruling of the currency notes. The reason that led to this difference was the lack of elaborations in classical *fiqh*, as at that time the only prevailing currencies were gold and silver. Metal coins namely *fuloos* were also available but their usage was limited to only those transactions that involved low-priced goods .

The status of currency notes remained controversial in the past until eventually the contemporary scholars accepted currency notes as gold and silver while applying the shariah rulings of *Riba* and *Bai' Sarf* on them. Contrarily, numerous scholars from the Indo-Pak subcontinent have rejected the idea of applying the rulings of *Riba* and *Bai' Sarf* on Currency Notes on the basis of the Hanafi school's elaborated effective cause of *Riba* (*Illat-e-Riba*).

The reason for this difference of opinion is the variety of viewpoints available among scholars regarding the effective cause of *Riba*. In the current literature, the majority of the research is carried out regarding the juristic nature and other aspects of this issue. However, in this

paper, we discuss the actual cause of the controversiality in the effective cause of *Riba* and its impact on the currency note.

Keywords: *Illat-e-Riba, Fulloos, Gold and Silver, Sarf, Thaman*

تمہید

مروجہ کرنسی نوٹ آج کی ترقی یافتہ دور کا شاخصانہ ہے۔ کسی زمانے میں سونا چاندی کے ڈھلے ہوئے سکے (درہم و دینار آلہ تبادلہ کے طور پر رائج تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کرنسی نوٹ وجود میں آگیا۔ کرنسی نوٹ کے وجود میں آنے کے بعد اس کے حکم میں فقہائے کرام کا آپس میں اختلاف ہوا۔ اس اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بارے میں متقدمین فقہاء کے ہاں کوئی تصریح نہیں تھی، کیونکہ ان کے زمانے میں سونا چاندی کے سکے بطور کرنسی رائج تھے۔ فلوس کے نام سے کچھ دھاتی سکے بھی رائج تھے لیکن اس کا استعمال صرف معمولی اور کم قیمت اشیاء کی لین دین تک محدود تھا۔ ماضی میں اس مسئلے میں کافی اختلاف رہا، لیکن بالآخر معاصر فقہاء کی اکثریت نے اس کو باقاعدہ طور پر بیع صرف اور ربو کے معاملے میں سونے اور چاندی کی طرح مستقل شمن کے طور پر تسلیم کر لیا، البتہ برصغیر پاک و ہند کے بیشتر فقہاء نے احناف کی علتِ ربو والے موقف کی بنا پر ایک اور رائے اختیار کی کہ کرنسی نوٹ پر بیع صرف اور ربو کے پورے احکام جاری نہیں ہوتے، چنانچہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کرنسی نوٹ کو امام محمدؒ کے قول کے مطابق فلوس کے حکم میں قرار دے دیا، جس کی تائید برصغیر پاک و ہند کے اکثر علمائے کی۔ بیشتر محققین نے اس موضوع پر لکھا ہے لیکن انہوں نے اس معاملے کی حقیقت، فقہی تکلیف اور دیگر مباحث کی طرف توجہ دی ہے، جب کہ زیرِ نظر مقالے میں اس اختلاف کی اصل اور بنیادی سبب کو زیرِ بحث لایا جائے گا جو درحقیقت علتِ ربو میں اختلاف ہے۔

کرنسی نوٹ میں اختلاف کی بنیاد

کرنسی نوٹ کے سلسلے میں علماء کی آرا مختلف ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے بعض علمائے کرام کے نزدیک کرنسی نوٹ دین کے "وثیقہ" کے حکم میں ہے، اس لیے اس پر شمن کے احکام جاری نہیں ہوں گے، چنانچہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر سونا اور چاندی کی رسید ہے، البتہ بعض حضرات کی رائے کے مطابق یہ سامان (عروض) کی طرح ہے۔ بعض علماء نے اسے شمن کے حکم میں قرار دیا۔ پھر ثمنیت کے سلسلے میں بھی علماء میں اختلاف پیدا ہوا، بعض نے کہا کہ یہ مستقل طور پر سونا چاندی کے حکم میں ہے اور اس پر سونا چاندی کے تمام احکام جاری ہوں گے، جب کہ بعض نے اسے فلوس کے حکم میں شمار کیا ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد درج ذیل دو سوالات پر ہے: 1- کیا کرنسی نوٹ کی پشت پر سونا اور چاندی ہیں؟ 2- کیا ثمنیت صرف سونا اور چاندی میں منحصر ہے؟ معاصر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ کرنسی نوٹ شمن ہے اور اس کی پشت پر کسی معدن یعنی سونا چاندی وغیرہ کا وجود ضروری نہیں ہے، تاہم اس کے باوجود ربو اور بیع صرف کے احکام کے سلسلے میں ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ احکام کرنسی نوٹ پر جاری ہوں گے؟ اس اختلاف کا انحصار "ربو کی علت" کے سلسلے میں منقول مختلف اقوال پر ہے اور فقہی تکلیف کے حوالے سے اختلاف کی حیثیت ثانوی ہے۔ چنانچہ وزن اور جنس کو ربو کی علت قرار دینے کے بعد یہ ممکن نہیں کہ کرنسی نوٹ پر بیع صرف کے احکام جاری ہونے کی رائے اختیار کی جائے، اگرچہ کرنسی نوٹ کو مستقل طور پر نقد بھی قرار دیا جائے۔ جن حضرات کے نزدیک علتِ ربو "مطلق ثمنیت" ہے ان کے مطابق کرنسی پر سونا چاندی کے احکام جاری ہوں گے اور جن

حضرات کے نزدیک ربو کی علت "ثمنیت غالبہ" ہے تو ان کے قول کا تقاضا یہ ہے کہ کرنسی پر بیع صرف اور ربو کے احکام جاری نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے علت کو سونا، چاندی میں منحصر کر دیا، جب کہ کرنسی نوٹ نہ سونا ہے نہ چاندی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف کی اصل بنیاد علت ربو میں اختلاف ہے، چنانچہ ذیل میں اسی نقطے پر بات کی جائے گی۔

سونا اور چاندی میں علت ربو کے سلسلے میں علماء کی آراء

ربو کی حرمت قرآن و سنت سے واضح ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275، 278، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 اور متعدد دیگر آیات کی رو سے سودی معاملات قطعی طور پر حرام قرار دیئے گئے۔ احادیث میں ربو الفضل کے احکام کی وضاحت اس حدیث سے ہو رہی ہے جس میں چھ چیزوں کا تذکرہ ہے جو مختلف طرق سے مروی ہے، چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"۔¹ اس حدیث میں سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک میں ہم جنس تبادلے کے وقت برابری اور فی الفور قبضے کو ضروری ٹھہرایا گیا ہے اور خلاف جنس تبادلے کے وقت صرف قبضے کو ضروری قرار دیا ہے۔ بعض احادیث میں ان چھ اشیاء کا تذکرہ ہے، جب کہ بعض میں صرف سونا چاندی کے تذکرہ پر اکتفا کیا گیا ہے، جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔² علت ربو کے حوالے سے سب سے اہم حدیث یہی ہے جس میں مذکورہ چھ اشیاء کا تذکرہ ہے۔ ظاہری مکتب فکر کے علمائے کرام کے ہاں یہ حکم صرف ان چھ اشیاء میں منحصر ہے،³ یہی رائے امام قتادہ، حنابلہ میں سے ابن عقیل⁴ اور امام الحرمین⁵ کی بھی ہے۔ جمہور علمائے کرام کے ہاں یہ حکم دیگر اشیاء کی طرف بھی متعدی ہے۔ جمہور فقہاء کے نزدیک ربو صرف ان اشیاء میں منحصر نہیں بلکہ ان اشیاء کا تذکرہ صرف بطور مثال ہے کیونکہ اس زمانے میں عمومی لین دین انہی اشیاء کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔⁶ مؤخر الذکر رائے کے قائل ائمہ کرام نے مذکورہ چھ اشیاء کو دو قسموں پر تقسیم کیا ہے: 1۔ سونا اور

چاندی 2۔ باقی چار اشیاء

حنفی کی رائے - وزن اور جنس

حنفی فقہائے کرام کے نزدیک سونا چاندی میں علت ربو "وزن اور اتحاد جنس" ہے،⁷ حنابلہ کا مشہور قول بھی یہی ہے،⁸ دیگر ائمہ میں سے امام نخعی، امام زہری، امام ثوری اور امام اسحاق کی بھی یہی رائے ہیں۔⁹ ان حضرات کا متدل قرآن حکیم کی وہ تمام آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے وزن پورا کرنے اور وزن میں کمی کرنے سے بچنے کا حکم فرمایا ہے جیسے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 181، 182، سورۃ ہود کی آیت نمبر 85 اور سورۃ مطففین کی ابتدائی تین آیات۔ ان کے علاوہ دیگر وہ آیات جن میں کیل اور وزن پورا کرنے کا حکم ہے اور پورا نہ کرنے والوں کے لیے وعید کا تذکرہ ہے، ان سب میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ جن چیزوں کو تولایا ناپا جاتا ہے ان میں برابری ضروری ہے ورنہ ان آیات کی مخالفت لازم آئے گی۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اس کے پیچھے مؤثر علت "وزن یا کیل" ہی ہے۔¹⁰

احادیث سے دلائل

1: حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے قبیلہ بنو عدی کے کسی فرد کو خیر میں سرکاری کارندہ مقرر فرمایا۔ وہ وہاں سے کچھ کھجور لے کر آیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا خیر کی تمام کھجوریں ایسی ہیں؟ کہا

: نہیں، بلکہ ہم دو صاع کے بدلے ایک صاع خریدتے ہیں، تو آپ ﷺ نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور متبادل طریقہ کار بتلاتے ہوئے فرمایا کہ درمیانی درجے کی کھجور بیچ کر اس کی قیمت سے اعلیٰ قسم کی کھجور خریدیں۔ حضور ﷺ نے یہ بھی اضافہ فرمایا: "وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ" یعنی یہی حکم وزنی اشیا کا بھی ہے۔¹¹ علامہ زلیعی نے اس حدیث کو مذکورہ بالا موقف پر سب سے مضبوط دلیل قرار دیا ہے۔¹²

2: ان حضرات کا مسئلہ وہ روایت بھی ہے جس میں چھ چیزوں کی حرمت کے ذکر کے ساتھ وزن کی تصریح بھی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے: "الذهب بالذهب وزنا بوزن..."¹³ یعنی جب سونے کا متبادل سونے کے ساتھ ہو تو وزن برابر برابر ہو۔ امام سرخسیؒ کے مطابق گویا اس حدیث کے بموجب "وزن" کا علت ہونا منصوبی ہے۔¹⁴ اسی طرح کا مضمون حضرت ابو سعید خدری،¹⁵ حضرت فضالہ بن عبید¹⁶ اور حضرت ابن عمر¹⁷ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی روایات میں بھی وارد ہے۔¹⁸

3- تیسری دلیل ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ حضور ﷺ ایک دن اپنی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تھے، تو عجوہ کھجور کھانے کی خواہش ظاہر کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انصار کے ایک آدمی کے پاس دو صاع کھجور بھیجے تو وہ آدمی دو صاع کے بدلے ایک صاع عجوہ کھجور لے آیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے وہ کھجور آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کی۔ جب آپ ﷺ نے اسے دیکھا تو آپ ﷺ کو اچھی لگی، چنانچہ ایک کھجور کھانے کے بعد آپ ﷺ رک گئے اور فرمایا: تیرے پاس یہ کھجور کہاں سے آگئی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے صورت حال کی وضاحت کی۔ آپ ﷺ نے وہ کھجور اپنے سامنے سے پھینکتے ہوئے فرمایا: "اسے واپس کرو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، کھجور کا متبادل کھجور کے ساتھ، گندم کا متبادل گندم کے ساتھ، جو کا متبادل جو کے ساتھ، سونے کا متبادل سونے کے ساتھ اور چاندی کا متبادل چاندی کے ساتھ ہو تو برابر برابر اور نقد ہو گا، جس نے اس پر اضافہ کیا (زیادتی کی) تو وہ سود ہے"۔ پھر فرمایا: "كَذَلِكَ مَا يَكُلُ وَيُوزَنُ" یعنی یہی حکم ہر کیلی اور وزنی چیز کا ہے۔

4- دارقطنی میں حضرت عبادہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے: "ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به"۔²⁰

یعنی وزنی چیز کا متبادل اگر اس کے ہم جنس چیز سے ہو تو برابری ضروری ہے اور کیلی چیز کا متبادل اگر اس کے ہم جنس چیز سے ہو تو بھی برابری ضروری ہے۔ ہاں اگر متبادل کسی اور جنس کے ساتھ ہو تو پھر کمی بیشی میں کوئی حرج نہیں۔ امام زلیعیؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے اس حکم کو جنس اور قدر کے ساتھ مربوط فرمایا ہے جو کہ اس کی علت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی حکم کو اسم مشتق کے ساتھ جوڑ لیا جائے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اس حکم کی علت ہے۔ بالفاظ دیگر اس حدیث کا یہ مطلب ہو گا کہ ہر کیلی اور وزنی چیز کا کیلی یا وزن اور جنس کی وجہ سے برابر برابر ہونا ضروری ہے۔²¹

5- امام طحاویؒ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے ان کا قول نقل کرتے ہیں: بسا اوقات ایک غلام دو غلاموں سے بہتر ہوتا ہے اور ایک کپڑا دو کپڑوں سے بہتر ہوتا ہے، چنانچہ جب لین دین نقد ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، جہاں تک سود کا تعلق ہے تو وہ ادھار میں ہوتا ہے الا یہ کہ وہ چیز کیلی یا وزنی ہو۔²² اس اثر سے استدلال واضح ہے۔

6۔ ابن حزم نے محلی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جن چیزوں کو صاع سے ناپ کر بیچا جاتا ہے ان کا تبادلہ اگر ہم جنس چیز سے ہو تو برابری ضروری ہے اور اگر جنس مختلف ہو تو پھر مضائقہ نہیں، پھر فرمایا کہ وزنی اشیا کا بھی یہی حکم ہے۔²³

دلائل کی تنقیح

جہاں تک قرآن حکیم کی مذکورہ بالا آیات سے استدلال کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو حضرات طعم اور شمیت کو ربو کی علت قرار دیتے ہیں، ان کا قول ان آیات کے مخالف نہیں، اس لیے کہ ان کے قول کے مطابق بھی تمام کھائی جانے والی چیزوں اور بطور ثمن استعمال ہونے والی چیزوں میں برابری ضروری ہے اور یہ برابری کیل یا وزن ہی سے ہوتی ہے۔ اس لیے دیگر اقوال کو اختیار کرتے ہوئے بھی ان آیات پر عمل ہو رہا ہے۔ جہاں تک خیر کی کھجور والی حدیث کا تعلق ہے جس میں "و كذلك الميزان" کا اضافہ وارد ہے تو امام بیہقیؒ کے نزدیک یہ اضافہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے، حدیث مرفوع میں اس طرح کا اضافہ نہیں ہے۔²⁴ وہ احادیث جن میں وزن یا کیل کا تذکرہ ہے، ان سے استدلال اس وجہ سے کمزور ہے کہ احادیث میں ان کا تذکرہ لین دین میں برابری پر زور دینے کے لیے کیا گیا ہے، علت کا بیان اس سے مقصود نہیں ہے۔ چنانچہ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ کیل کو محض برابری کا ذریعہ قرار دینے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اسی پر حکم کا دار و مدار بھی ہو۔²⁵ امام شوکانیؒ نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ کیل اور وزن کا ذکر محض برابری کو لازم قرار دینے کے لیے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر باقی کیلی اور وزنی چیزوں کی طرف حکم کو متعدی کرنا درست نہیں۔²⁶ جہاں تک حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ والی روایت کا تعلق ہے تو اس روایت کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ امام بیہقیؒ کے نزدیک یہ اضافہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے جیسا کہ خیر کی کھجور والی روایت میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس بات پر استدلال داود بن ابی ہند کی روایت سے کیا ہے کہ انہوں نے ابو نضرہ کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اس طرح کا قصہ نقل کیا ہے جس میں حضور ﷺ کا اتنا ارشاد منقول ہے: "أرئيت، إذا أردت ذلك فبع تمرک بسبعة ثم اشتر بساعتك أي تمر شئت"، یعنی تم نے سودی معاملہ کیا، جب بھی تم اس طرح کرتے ہو تو پہلے اپنی کھجور بیچا کرو، اس سے جو قیمت حاصل ہو جائے تو اس سے جو کھجور چاہو، خرید لو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة"، یعنی کھجور کو کھجور کے ساتھ بیچنے میں سود کا احتمال زیادہ ہے یا چاندی کو چاندی کے ساتھ بیچنے میں؟ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل روایت میں صرف کھجور کا ذکر تھا، حضرت ابو سعید خدریؒ نے اس بابت چاندی کو کھجور پر قیاس کیا، بعد کے راویوں نے اسے حدیث مرفوع کا حصہ بنادیا۔²⁷ ابن حزمؒ نے اس احتمال کا ذکر بھی کیا ہے کہ ممکن ہے کہ یا اضافہ ابو مجلز نے کیا ہو اس لیے کہ دیگر ثقہ راویوں نے حضرت ابو سعید خدریؒ سے یہ روایت اس لفظ کے بغیر نقل کی ہے۔²⁸ امام طحاویؒ کی تخریج کے مطابق بھی اصل روایت میں یہ اضافہ نہیں ہے۔²⁹ مزید برآں یہ اضافہ صرف حیان ابن عبید اللہ العدوی کی روایت میں مروی ہے اور وہ ضعیف راوی ہے۔ امام بیہقیؒ فرماتے ہیں: ابو مجلز کی بیان کردہ احادیث میں سے اس حدیث میں حیان نے تفرّد اختیار کیا ہے، اور حیان کے معاملے میں محدثین نے کلام کیا ہے۔³⁰ جہاں تک حضرت انسؒ اور حضرت عبادہؒ کی حدیث کا تعلق ہے، تو امام دارقطنیؒ کے ہاں اس حدیث میں سند اور متن کے اعتبار سے اختلاف ہے۔³¹ نیز راوی ربیع بن صبیح متکلم فیہ ہے، چنانچہ علامہ شوکانیؒ فرماتے ہیں: "اس روایت کی اسناد میں ربیع بن صبیح ہے جن کی روایت میں امام احمدؒ کے نزدیک کوئی مضائقہ

نہیں ہے البتہ یحییٰ بن معینؒ، ابن سعدؒ اور امام نسائیؒ کے نزدیک وہ ضعیف ہے۔ ابو زرہؒ اور ابو حاتمؒ کے نزدیک وہ نیک آدمی ہیں، البتہ ان کے نیک ہونے سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ حدیث کے معاملے میں بھی وہ ثقہ ہو۔ صاحب تقریب نے ان کو صادق قرار دینے کے ساتھ ساتھ سی الحفظ بھی قرار دیا ہے۔ لہذا اس طرح کی روایت ربو جیسے بڑے حکم کے ثبوت کے لیے بطور حجت پیش نہیں کی جاسکتی۔³² حضرت عمارؓ کے قول کو بطور دلیل پیش کرنے کو علامہ ابن حزمؒ نے مسترد کیا ہے، اس لیے کہ اس کے الفاظ اس طرح ہیں: "فما كان يدا بيد فلا بأس، إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن" اب نحوی لحاظ سے دیکھنا یہ ہے کہ "إلا ما كيل أو وزن" کو کس جملے سے استثناء قرار دیا جائے، اگر اس کو "إنما الربا في النساء" سے استثناء قرار دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گا کہ سود کا تعلق صرف ادھار اور کیلی اور وزنی اشیاء سے ہے، حالانکہ یہ حنفیہ کی رائے نہیں، اور اگر اس کو "فما كان يدا بيد فلا بأس" سے استثناء قرار دیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہو گا کہ کیلی چیز کا تبادلہ وزنی چیز سے ہاتھوں ہاتھ بھی درست نہیں، دونوں صورتوں میں کسی کے بھی حنفیہ قائل نہیں اور کوئی تیسری توجیہ ممکن نہیں، اس لیے یہ دلیل کمزور ہے۔³³ لیکن ابن حزمؒ کا یہ اعتراض کمزور اس لیے ہے کہ حضرت عمارؓ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ربا النسئہ صرف قرض کے معاملات میں ہی لازم آتا ہے البتہ کیلی اور وزنی چیزوں میں ربا الفضل بھی لازم آتا ہے۔³⁴ تاہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ صحابی کی ذاتی رائے ہے جس سے اختلاف کی گنجائش ہے۔ جہاں تک حدیث عمرؓ کا تعلق ہے تو ابن حزمؒ نے اسے انقطاع کی وجہ سے رد کیا ہے³⁵ کیونکہ اس حدیث کی روایت عمرو بن شعیبؒ نے حضرت عمرؓ سے بلا واسطہ کی ہے، جب کہ عمرو بن شعیبؒ نے حضرت عمرؓ کا زمانہ نہیں پایا، اس اعتبار سے یہ روایت منقطع ہے۔³⁶

وزن کو علت قرار دینے والے موقف پر وارد اعتراضات

متذکرہ بالا رائے پر فقہی نوعیت کے کچھ اشکالات بھی وارد ہوتے ہیں جن کا ذکر حسب ذیل ہے۔

1- نقض علت

اس رائے پر سب سے اہم اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ جب کسی وزنی چیز میں بیع سلم کیا جائے اور سونا یا چاندی کو قیمت بنا لیا جائے تو اس علت کے مطابق چونکہ دونوں وزنی چیزیں ہیں اور دو وزنی اشیاء کا آپس میں بیع سلم درست نہیں ہوتا، اس لیے یہ عقد بھی ناجائز ہونا چاہیے، جب کہ حنفیہ کے ہاں ایسا عقد جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علت ربو کے معاملے میں سونا، چاندی اور دیگر موزونات کا حکم مختلف ہے، لہذا "وزن" کو علت ربو قرار دینا کسی صورت درست نہیں۔³⁷ علامہ ابن القیمؒ فرماتے ہیں کہ جب علت بغیر کسی مؤثر فرق کے حکم پر اثر انداز نہ ہو سکے تو ایسی چیز کو علت قرار دینا درست نہیں۔³⁸ حنفیہ نے اس اشکال کا جواب کچھ یوں دیا ہے کہ سونا چاندی بھی وزنی ہے اور باقی اشیاء بھی وزنی ہیں مگر دونوں کے وزنی ہونے میں اس لحاظ سے فرق ہے کہ سونے چاندی کو بہت دقیق ترازو سے تولاجاتا ہے اور متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے جب کہ دیگر وزنی اشیاء ایسی نہیں، اور اس عقد سلم کی اباحت حدیث سے بھی ثابت ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلی اور وزنی اشیاء میں سلم کی اجازت دی³⁹ حالانکہ اس زمانے کی رائج کرنسی درہم اور دینار ہی تھے۔⁴⁰ لیکن یہ جواب اس لحاظ سے کمزور ہے کہ ترازو کا مختلف ہونے کے باوجود یہ تمام چیزیں پھر بھی وزنی تو ہیں، اس لیے ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو عمومی حکم سے مستثنیٰ قرار دیا جائے ورنہ تو سلم کا دروازہ بند ہو جائے گا۔⁴¹

2- وزن ایک اتفاقی وصف ہے

وزن کو علت قرار دینا ایک غیر متعلقہ وصف کو علت قرار دینے کے مترادف ہے جب کہ اصولیین کے ہاں علت اور حکم کے مابین ایک گونہ مناسبت ضروری ہے، امام ماوردیؒ فرماتے ہیں: ثبوت حکم کے معاملے میں علت وہ وصف ہونا چاہیے جو مقصود ہی ہو یعنی اتفاقی نہ ہو،⁴² جب کہ وزن کو علت قرار دینا محض ایک اتفاقی چیز کو علت قرار دینا ہے جس کی اصل حکم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ علامہ ابن القیمؒ نے بھی اس موقف کو اسی وجہ سے رد کیا ہے۔⁴³ شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے نزدیک بھی شریعت کے قوانین کے ساتھ زیادہ موافق یہ ہے کہ سونا، چاندی میں "ثمنیت" کو علت قرار دے کر متعلقہ احکام کو انہی دونوں کے ساتھ مختص کیا جائے، کیونکہ شریعت نے مجلس عقد میں تقابض کو واجب قرار دینے جیسے اکثر احکام میں "ثمنیت" ہی کو مدد بنایا ہے۔⁴⁴

3- جگہ اور اشیاء کے اختلاف کی وجہ سے علت میں اختلاف

ایک اعتراض یہ بھی وارد ہوتا ہے کہ بعض چیزیں بعض علاقوں میں کیل کے ذریعے بیچی جاتی ہیں، جب کہ بعض دیگر جگہوں پر وزن کر کے بیچی جاتی ہیں، کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، چنانچہ کھجور حجاز میں کیل کر کے بیچی جاتی ہیں اور بصرہ اور عراق میں وزن کر کے بیچی جاتی ہیں۔ اسی طرح گندم بھی کسی زمانے میں کیل کے ذریعے بیچی جاتی تھی، اس کے بعد وزن کے ذریعے اس کی خرید و فروخت شروع ہوئی۔ اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ایک ہی جنس کے اندر بعض علاقوں میں ربو پایا جاسکتا ہے جب کہ بعض علاقوں میں اسی جنس کے اندر ربو کا احتمال بھی نہیں ہے، نیز اسی طرح بعض زمانوں میں پایا جاسکتا ہے اور بعض میں نہیں، جب کہ حکم کی علت کے لیے تو ضروری ہے کہ ہر زمانے اور ہر جگہ میں یکساں ہو۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم ہر ملک اور علاقے کی عادت کو اعتبار دیں گے تو دین کھلواڑ بن جائے گا۔ جب بھی اس علاقے کے لوگ حرام چیز کو حلال کرنا چاہیں گے تو جس چیز کو وہ کیل کر کے بیچتے تھے، اس کو وزن کر کے بیچنا شروع کر دیں گے، چنانچہ ایک حرام چیز وہ اپنے اختیار کے ساتھ حلال ٹھہرا سکیں گے۔⁴⁵

4- سونا چاندی کے علاوہ چیزوں میں ربو کی حکمت کا وجود

شیخ ابن منیعؒ فرماتے ہیں کہ حرمت ربو کی حکمت یعنی دفع ظلم وعدوان ہر اس چیز میں پائی جاتی ہے جو بطور ثمن رائج ہو، بلکہ سونا چاندی میں حرمت ربو کے معاملے میں جس ظلم کی رعایت رکھی جاتی ہے، وہ کرنسی نوٹ کے لین دین میں بھی پایا جاتا ہے، لہذا وزن کو علت ٹھہرانا ثمن کی تمام قسموں کو شامل نہیں، اس لیے علت ایسی ہونی چاہیے جو ان تمام اقسام کو شامل ہو۔⁴⁶ حنفیہ کی جانب سے ان اعتراضات کے کچھ جوابات بھی دئے گئے ہیں جو کتب فقہ میں موجود ہیں۔

دوسری رائے: ثمنیت غالبہ

علت رباعی کے حوالے سے دوسری رائے یہ ہے کہ رباعی علت "جنس بمع ثمنیت غالبہ" ہے، جس کو "ثمنیت جوہریہ" بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علت نفقہ کے علاوہ فلوس وغیرہ کی طرف متعدی نہیں ہوتی۔ یہ امام شافعیؒ کا قول ہے، نیز امام مالکؒ کا مشہور قول بھی ہے، امام احمدؒ سے بھی ایک روایت ہے⁴⁷ اور شاہ ولی اللہؒ نے بھی اسے اختیار کیا ہے۔⁵⁰

دلائل

ان حضرات کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ درہم اور دینار کے بدلے کسی بھی وزنی چیز کو بیع سلم کے ذریعے خریداجا سکتا ہے حالانکہ اگر وزن علت ہوتا تو یہ ناجائز ہونا چاہیے تھا جیسے کہ جو کے عوض گندم میں سلم کرنا جائز نہیں ہے اور

دینار کے عوض درہم میں سلم جائز نہیں،⁵¹ نیز امام ابو حنیفہؒ نے تانبہ، لوہا اور سکہ کی بنی ہوئی اشیا کی بیع کو آپس میں کمی بیشی کے ساتھ جائز قرار دیا ہے، اگر علت وزن ہوتی تو پھر اسے ناجائز ہونا چاہیے تھا۔⁵² امام شیرازی فرماتے ہیں: یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سونا چاندی میں علت ایک ایسا وصف ہے جو ان دونوں کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف متعدی نہیں ہوتا اور وہ معنیٰ ان کا "اثمان کے جنس میں سے ہونا" ہے۔⁵³ ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ علت اور حکم کے مابین مناسبت ضروری ہے۔ جب ہم ربو سے متعلق احادیث پر نظر دوڑاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک ﷺ نے بعض احادیث میں چھ چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جب کہ بعض میں صرف سونا چاندی کا ذکر فرمایا ہے تو مناسب یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے مستقل طور پر ایک مناسب اور الگ علت تلاش کی جائے۔ جب ہم ان اوصاف میں غور کرتے ہیں جن میں علت بننے کی صلاحیت موجود ہے تو وصفِ ثمنیت ایک ایسا مناسب وصف معلوم ہوتا ہے جو علت بننے کے لائق ہے۔⁵⁴ ماوردیؒ کے مطابق اصول یہ ہے کہ سونا، چاندی کے بارے میں کوئی حکم دیا جائے تو وہ حکم ان دونوں کے ساتھ خاص ہو گا اور کسی اور چیز کو ان پر قیاس نہیں کیا جائے گا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم ان دونوں کے ساتھ ہی خاص ہے، ان دونوں کے علاوہ بیتل، تانبہ اور دیگر موزونی اشیا کی طرف یہ حکم متعدی نہیں، نیز جب سونا، چاندی کے برتنوں کا استعمال حرام قرار دیا گیا تو یہ ممانعت کا حکم صرف ان دونوں کے ساتھ خاص ہو گیا، ان کے علاوہ دیگر اشیا کی برتنوں کی طرف متعدی نہیں ہوا، اسی طرح یہاں بھی ضروری ہے کہ ربو کا حکم بھی ان دونوں کے ساتھ ہی خاص ہو اور کسی اور کی طرف متعدی نہ ہو۔⁵⁵

مذکورہ دلائل کی تنقیح

ان دلائل پر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

علتِ قاصرہ

1- سب سے پہلے اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ یہ علت صرف سونا چاندی کے ساتھ خاص ہے جس کو علتِ قاصرہ کہا جاتا ہے اور علتِ قاصرہ میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ متعدی نہیں ہوتی جب کہ علتِ وزن متعدی ہے،⁵⁶ چنانچہ اگر سونا، چاندی کی علت کو ثمنیت مان لیا جائے اور پھر وہ ثمنیت صرف ان کے ساتھ ہی خاص رہے، کسی اور چیز کی طرف متعدی نہ ہو تو اس سے یہ بہتر ہے کہ سونا، چاندی ہونا ہی علت قرار دیا جائے، یعنی چاندی کا چاندی ہونا اور سونے کا سونا ہونا ہی علت ہو، لیکن اس طرح کرنا عدم تعدی کی وجہ سے درست نہیں ہے، لہذا عدم تعدی ہی کی وجہ سے ثمنیت غالبہ کو بھی علت ٹھہرانا درست نہیں ہے۔⁵⁷ یہی وجہ ہے کہ امام الحرمینؒ نے اپنے اس قول سے رجوع کرتے ہوئے اہل ظواہر کی موافقت اختیار فرمائی کہ ربو کا حکم چھ اشیا کے ساتھ خاص ہے۔⁵⁸

علت جامع مانع نہیں

2- دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ثمنیت کی علت جامع اور مانع نہیں، کیونکہ فلوس بعض جگہوں پر ثمن کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ کے نزدیک اس میں کوئی ربو نہیں ہے تو علت کے پائے جانے کے باوجود حکم موجود نہیں۔ اسی طرح سونا، چاندی کے برتنوں میں ربو جاری ہوتا ہے باوجود یہ کہ یہ برتن ثمن نہیں ہے۔⁵⁹

علتِ قاصرہ ہونے سے جواب

شافعی فقہائے کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ علتِ قاصرہ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قدیم فقہاء کے ہاں سونا، چاندی کے علاوہ اور چیزوں میں یہ اوصاف نہیں پائے جاسکتے، اس وجہ سے انہوں نے حرمت کو صرف ان دونوں تک محدود رکھا،⁶⁰ نیز انہوں نے اس کے کچھ فوائد بھی ذکر کیے ہیں، مجملہ ان فوائد میں سے ایک فائدہ حکم کا اسی علت پر مقصور ہونا ہے، تاکہ اس پر مزید قیاس نہ کیا جائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ مستقبل میں کسی ایسی چیز کا وجود آجائے جو من کل الوجوہ سونا چاندی کی جگہ لے لے تو اس کو بھی سونا چاندی کے ساتھ ملحق کیا جائے۔⁶¹

دوسرے اشکال کا جواب

دوسرے اشکال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جہاں تک فلوس یعنی دھاتی سکوں کی بات ہے تو اس میں مکمل ثمنیت موجود ہی نہیں، صرف چند شہروں میں اس کا رواج تھا، اس لیے اس کا حکم میں داخل نہ ہونا چنداں مضر نہیں، البتہ سونا چاندی کی برتنوں میں علت موجود ہے، کیونکہ علت میں مطلق ثمنیت کی بات کی گئی ہے جو کہ ان برتنوں میں موجود ہے۔⁶² یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ سونا چاندی میں ربو'انص سے ثابت ہے اور وہ نص عام ہے، وہاں سونا، چاندی سے بنے ہوئے برتن، زیور اور دیگر اشیاء میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس پر اجماع بھی ہے۔⁶³

تیسری رائے: مطلق ثمنیت

علتِ ربو'انص کے حوالے سے تیسری رائے یہ ہے کہ علت "مطلق ثمنیت" ہے چاہے سونا، چاندی ہو یا فلوس یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو جس میں ثمنیت کے اوصاف متحقق ہوں۔ اس رائے کے حاملین میں سے بعض نے صراحت کے ساتھ ثمنیت کے علت ہونے کا تذکرہ کیا ہے، جب کہ بعض نے علت کی بابت تو کچھ نہیں کہا، لیکن فلوس پر سونا چاندی کے احکام انہوں نے جاری کر دیئے، جس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان کے ہاں علت "مطلق ثمنیت" ہے۔ یہ رائے امام مالک⁶⁴ سے منقول ہے، نیز امام بیہقی بن سعید⁶⁵، امام ربیعہ⁶⁶ اور امام ابن تیمیہ⁶⁷ کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔⁶⁷ مالکیہ میں سے امام ابن عربی⁶⁸ نے اس کو رائج قرار دیا ہے۔⁶⁸ بعض معاصر اہل علم نے اس قول کو امام محمد بن حسن⁶⁹ اور بعض احناف کی طرف بھی منسوب کیا ہے⁶⁹ لیکن یہ نسبت درست نہیں ہے کیونکہ امام محمد⁷⁰ نے اس کی تصریح نہیں کی، اگرچہ وہ فلوس کی ثمنیت کے قائل ہیں اور ایک فلس کی بدلے دو فلوس کی بیع کو منع فرمایا ہے لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں ہوتی کہ ان کے نزدیک "مطلق ثمنیت" ہی علت ہے۔ شیخ ابن منیع⁷⁰ اور ان سے قبل ابن تیمیہ⁷¹ نے اس قول کو امام ابو حنیفہ طرف منسوب کیا ہے، لیکن یہ قول احناف کی کتابوں میں منقول نہیں ہے، لہذا اس روایت کی صحت یقینی نہیں ہے، اور نہ ہی اس روایت کی بنیاد معلوم ہے۔

معاصر اہل علم میں اس بات پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا امام احمد⁷² سے "مطلق ثمنیت" کے علت ہونے کے متعلق کوئی روایت منقول ہے؟ بعض حضرات اس کا اثبات کرتے ہیں جب کہ بعض انکار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ائمہ حنابلہ نے سونا، چاندی کے علتِ ربو'انص کے متعلق دو آرا ذکر کیے ہیں:

1۔ پہلی رائے احناف کی طرح "وزن مع الجنس" کی ہے۔

2۔ دوسری رائے شافعیہ کی طرح "ثمنیت غالبہ" کی ہے۔ اسی وجہ سے بعض معاصرین تیسری رائے کا انکار کرتے ہیں۔⁷² لیکن حنابلہ کی کتابوں میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ایک روایت کے مطابق فلوس کو دراہم کے عوض

ادھار بیچنا ممنوع ہے اور اس روایت کی نسبت امام احمدؒ کی طرف کی گئی ہے۔ حافظ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں: جہاں تک چاندی کو فلوس کے عوض بیچنے کا تعلق ہے تو کیا اس میں فوری قبضہ ضروری ہے؟ اس سلسلے میں امام احمدؒ سے دو اقوال منقول ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ فی الفور قبضہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بیع صرف کی جنس سے ہے، کیونکہ فلوس باقی اثمان کی طرح ہی ہیں۔⁷³ ایک اور جگہ فلوس کو دراہم کے عوض بیچنے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں ادھار کے جائز ہونے کے متعلق امام ابو حنیفہؒ اور امام احمد بن حنبلؒ سے دو مشہور اقوال منقول ہیں، چنانچہ پہلے قول کی تصریح کے مطابق یہ عقد جائز نہیں ہے۔ امام احمدؒ کے علاوہ امام مالکؒ کا بھی یہی قول ہے۔⁷⁴ اسی طرح امام مرداوی فرماتے ہیں: کہ اگر فلوس کو سونے کے عوض یا چاندی کے عوض بیچا جائے تو صحیح رائے کے مطابق اس میں ادھار جائز نہیں۔ اکثر حضرات کا یہی قول ہے۔⁷⁵ امام زرکشی فرماتے ہیں: کیا فلوس نافقہ ثمن کے قائم مقام ہو سکتے ہیں؟ تاکہ اس میں ربو جاری ہو جائے۔ اگر "مطلق ثمنیت" کو علت قرار دیا جائے تو اس میں ربو جاری ہو گا۔ ابو الحطاب سے بھی یہ منقول ہے۔⁷⁶ مذکورہ بالا نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ امام احمدؒ کے نزدیک علت ایک روایت کے مطابق "مطلق ثمنیت" ہے کیونکہ پہلے دو اقوال کے مطابق ان کے نزدیک فلوس پر بیع صرف کے احکام جاری کرنا ممکن نہیں ہے۔

اس موقف کے دلائل

دوسری رائے کے دلائل پر اضافہ کرتے ہوئے اس رائے کے قائل فقہاء کی دلیل یہ ہے کہ ثمنیت سے مقصود سونا اور چاندی بذات خود نہیں ہے، بلکہ ثمنیت سے مقصود ان خصوصیات کا تحقق ہے جو سونا، چاندی میں پائی جاتی ہیں۔ فلوس میں بھی چونکہ وہی خصوصیات پائی جاتی ہیں، لہذا علت اس کو بھی شامل ہونی چاہیے، جہاں تک اس دعویٰ کا تعلق ہے کہ ثمنیت کے لیے صرف سونا چاندی کی تخلیق ہو چکی ہے تو دلائل سے یہ موقف ثابت نہیں ہوتا۔⁷⁷ شیخ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ ثمن بنیادی طور پر چیزوں کی قیمت معلوم کرنے کے لیے بطور معیار استعمال ہوتا ہے اور وہ بذات خود قابل انتفاع چیز نہیں، لہذا جب فلوس کو اثمان قرار دیا گیا تو اس کو کسی اور ثمن کے بدلے ادھار نہیں بیچا جائے گا۔⁷⁸ اسی طرح علامہ محمد رشید رضا فرماتے ہیں کہ سونا، چاندی کے علاوہ کسی اور چیز میں جب ایک علت پائی جائے اور گندم، جو، کھجور اور نمک کے علاوہ کھانے کی کسی اور چیز میں اگر کوئی علت پائی جائے تو مذکورہ چھ اجناس پر ان دونوں کا قیاس کرنا درست ہو گا، اس لیے کہ سود کی حرمت کی حکمت اس میں بھی موجود ہے۔⁷⁹

اعتراض

تاہم اس قول پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ سونا، چاندی اور فلوس کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ سونا، چاندی اصلاً اثمان ہیں، اور اس کی ثمنیت لوگوں کے اتفاق سے باطل نہیں ہو سکتی۔ فلوس کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اس کی ثمنیت حکومت وقت کے حکم نامے اور پھر لوگوں کے تعامل کی مرہون منت ہے، نیز حکومت کی طرف سے اس کی ثمنیت ختم کرنے کے بعد اس کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی۔ علماء نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ مقصود سونا، چاندی یا فلوس کی ذات نہیں بلکہ مقصود ان کے ذریعے اشیاء کی خرید و فروخت ہے اور یہ مقصد فلوس کے اندر بھی پایا جاتا ہے، پھر اس صفت کا ہر زمانے اور ہر مقام میں پایا جانا مقصود اصلی سے الگ معاملہ ہے، اس لیے اگر حکومت فلوس کو ختم کر دے تو اس کی ثمنیت بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ حکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے اور علت کے زوال پذیر ہونے سے حکم بھی زائل ہو جاتا ہے۔⁸⁰

راج قول

ائمہ کے اقوال اور دلائل میں غور کرنے سے احناف اور حنابلہ کا موقف نصوص کے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے، ان کے موقف کی تائید نصوص کے اشارۃ النص اور بعض اوقات دلالت النص سے ہوتی ہے، البتہ وزن اور سونا، چاندی کے مابین کوئی مناسبت نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کا موزون ہونا ایک اتفاقی امر ہے، علت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے جو دلائل ذکر کیے ہیں اس پر بھی اشکالات و اعتراضات ہیں۔ مزید اگر علت وزن ہو تو پھر سونا، چاندی، چونا اور لوہے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان میں سے ہر ایک چیز موزون ہے تو سونا چاندی کی بیج کو کیوں الگ کر کے بیج صرف کا نام دیا گیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سونا، چاندی کے اندر ایک اضافی خصوصیت ہے جو باقی چیزوں میں نہیں ہے اور وہ "ثمنیت" ہی ہے۔ لیکن چونکہ علت ربا اور کرنسی نوٹ کی فقہی تکلیف باہم لازم و ملزوم ہیں کیونکہ اگر ہم علت وزن کو ترجیح دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ کرنسی نوٹ پر بیج صرف کے احکام جاری نہیں ہوں گے اور اگر ہم مطلق ثمنیت کو راج قرار دیں تو پھر اس اعتبار سے کرنسی نوٹ پر بیج صرف کے احکام مطلقاً جاری ہوں گے، لہذا کرنسی نوٹ کی فقہی تکلیف پر بحث کرنے کے بعد ہم ان آراء میں سے راج رائے ذکر کریں گے۔

کرنسی نوٹ کی فقہی تکلیف کے سلسلے میں معاصر اہل علم کی آرا

معاصر جمہور اہل علم کی رائے

معاصر جمہور اہل علم کے ہاں کرنسی نوٹ اپنی ذات کی اعتبار سے مستقل نقدی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس پر وہ تمام احکام جاری ہوں گے جو سونا اور چاندی پر جاری ہوتے ہیں۔ ربو اور زکوٰۃ سے متعلقہ تمام احکام کرنسی نوٹ پر جاری ہوں گے، نیز سلم، شرکت اور مضاربہ کے لیے اس کو راس المال بنانا بھی درست ہو گا۔ کرنسی نوٹ کو علت ربو کے تحت لانے کے لیے انہوں نے "ثمنیت" کو علت ربو قرار دیا۔ شیخ عبد اللہ بن سلیمان بن منیع،⁸¹ شیخ عبد الرحمن الساعانی،⁸² ڈاکٹر وہبہ زحیلی⁸³ اور معاصر جمہور اہل علم نے یہی موقف اپنایا ہے۔ سعودی عرب کے علمائے کرام کی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا فتویٰ بھی یہی ہے۔⁸⁴ نیز رابطہ عالم اسلامی کے تحت مجمع الفقہ الاسلامی⁸⁵ اور AAOIFI نے اس حوالے سے قرار داد بھی منظور کی ہے۔⁸⁶ اس قول سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ علت ربو "مطلق ثمنیت" ہے یا "ثمنیت غالبہ" ہے، لہذا جن حضرات نے اس رائے کو ترجیح دی ہے، انہیں لازمی طور پر "مطلق ثمنیت" کو علت قرار دینے کے سلسلے میں مالکیہ کی رائے کو ترجیح دینی پڑے گی یا "غالب ثمنیت" کو علت قرار دینے کے سلسلے میں شافعیہ کی رائے کو ترجیح دینی ہوگی اور دوسری رائے کو اختیار کرنے کے بعد یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کرنسی نوٹ میں سونا، چاندی کی طرح ثمنیت غالبہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ سونا چاندی کے تمام احکام کرنسی نوٹ پر جاری کرانے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔

مذہب فقہاء کے تحت اس رائے کی تخریج

علت ربو کے حوالے سے فقہاء کرام کی آراء پر اس رائے کی تخریج دو طرح سے ہو سکتی ہے:

1۔ اکثر حضرات نے اس کی تخریج مالکیہ کی رائے کے مطابق کی ہے کیونکہ ان کے نزدیک سونا، چاندی میں علت ربو "مطلق ثمنیت" ہے اور یہی علت کرنسی نوٹ میں بھی پائی جاتی ہے، لہذا اس تخریج کے مطابق سونا، چاندی، فلوس اور کرنسی نوٹ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ان سب پر بیج صرف اور ربو کے احکام جاری ہوں گے۔

2- بعض محققین نے اس کی تخریج جمہور کی رائے کے موافق "ثمنیت غالبہ" پر کی ہے۔ جمہور کا لفظ اس لیے ہم نے استعمال کیا کہ یہ شوافع کا مسلک بھی ہے، مالکیہ کا مشہور قول بھی یہی ہے اور حنابلہ سے بھی اس طرح کا ایک قول منقول ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ "ثمنیت غالبہ" سے مراد وہ ثمن ہے جس کا استعمال غالب ہو اور وہی سکہ رائج الوقت ہو۔ یہ وصف چونکہ کرنسی نوٹ میں ایک لحاظ سے سونا اور چاندی سے بھی زیادہ ہے، لہذا علت ربو اس کو بھی شامل ہے، اور بعض حضرات نے جو ثمنیت جوہریہ کے الفاظ سے اس کی تعبیر کی ہے، وہ سونے کے برتن وغیرہ کو علت ربو میں شامل کرنے کے لیے کی ہے، کرنسی نوٹ کا اخراج مقصود نہیں۔⁸⁷ مزید یہ کہ بعض شافعی فقہاء نے اس کی تعبیر "ثمنیت غالبہ کی صلاحیت" سے کی ہے⁸⁸ جو کہ کرنسی نوٹ میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس کی تائید بعض حنبلی فقہاء کی عبارات میں بھی ملتی ہے، مثلاً امام مرداوی نے جہاں فلوس کو علت ربو کے تحت داخل نہ کرنے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس میں ثمنیت غالبہ موجود نہیں، وہاں یہ تصریح کی ہے کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں، اگر فلوس بھی سونا، چاندی کی طرح علی الاطلاق بطور ثمن استعمال ہونے لگے تو ان پر لازم ہو گا کہ فلوس کو اس علت کے تحت داخل کریں۔⁸⁹ ابن مفلح نے الفروع میں بھی یہی بات لکھی ہے۔⁹⁰ علامہ ابن حجر ہیتمی فرماتے ہیں کہ اگر فلوس سونا، چاندی کی طرح رائج ہو گئے تو سونا چاندی کے احکام اس پر بھی جاری ہوں گے۔⁹¹ اس تخریج پر ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ جن حضرات نے "ثمنیت غالبہ" کو علت تسلیم کیا ہے تو انہوں نے اس بات کی تصریح بھی کی ہے کہ یہ صرف سونا، چاندی تک محدود ہے، تو کسی اور چیز کو اس پر قیاس کرنا کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ انہوں نے علت کو صرف سونا، چاندی میں اس لیے منحصر رکھا کہ اس زمانے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز نقدی کے طور پر رائج نہیں تھی، نہ ہی کوئی ایسی چیز وجود میں آئی تھی جس میں سونا، چاندی کے جملہ اوصاف موجود ہوں اور اس کو سونا، چاندی پر قیاس کیا جاسکے۔ فلوس اگرچہ رائج تھے لیکن وہ مکمل طور پر سونا، چاندی کے قائم مقام نہیں تھے، لہذا علت متعدیہ میں انہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ امام ماوردی فرماتے ہیں کہ فلوس اگرچہ بعض شہروں میں ثمن کے طور پر رائج تھے لیکن بہت ہی نادر تھے۔⁹² ان فقہائے کرام کی رائے یہ نہیں تھی کہ قیاس کو سرے سے ممنوع قرار دیا جائے، ورنہ پھر وہ علت کو "سونا اور چاندی ہونا" قرار دے دیتے۔ جب انہوں نے "جنس ثمنیت یا ثمنیت غالبہ" کو علت ٹھہرایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور ایسی چیز وجود میں آگئی جس میں ثمنیت کے اوصاف موجود ہوں تو ان کے نزدیک قیاس درست ہو گا۔⁹³ اس تخریج کے مطابق فلوس سونا، چاندی کے ساتھ ملحق نہیں ہیں، البتہ کرنسی نوٹ سونا چاندی کے ساتھ ملحق ہے۔⁹⁴

مذکورہ بالا رائے پر مرتب ہونے والے احکام

کرنسی نوٹ کو اگر سونا، چاندی کے ساتھ ملحق کیا جائے تو مندرجہ ذیل احکام پر اس کا اثر مرتب ہو گا:

- 1- سونا، چاندی میں ربو کے دونوں انواع یعنی ربو الفضل اور ربو النسیئہ جاری ہوں گے۔
- 2- ادھار معاملہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو گا، لہذا ایک ملک کے کرنسی نوٹوں کا دوسرے ملک کے کرنسی نوٹوں کے عوض ادھار بیچنا یا سونا یا چاندی کے عوض ادھار بیچنا مطلقاً ناجائز ہو گا، مثلاً: سعودی ریال کی ادھار بیچ پاکستانی روپے کے عوض ناجائز ہوگی۔
- 3- ایک ہی ملک کی کرنسی کا آپس میں تبادلہ کے وقت تفاضل جائز نہیں ہو گا، چاہے ادھار ہو یا نقد، مثلاً دس پاکستانی روپے کا تبادلہ گیارہ روپے سے ناجائز ہو گا۔

۴۔ دو ملکوں کی کرنسی کا آپس میں تبادلہ کرتے وقت تفاضل جائز ہو گا، البتہ دونوں طرف سے قبضہ کرنا شرط ہے۔
۵۔ جب کرنسی کی قیمت سونا یا چاندی کے دونوں نصابوں میں سے کسی ایک نصاب تک پہنچ جائے یا اس کے علاوہ دیگر اثمان اور سامان تجارت سے مل کر نصاب مکمل ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔

۶۔ سلم اور شراکت داری کے معاملوں میں کرنسی نوٹ بطور رأس المال (Capital) استعمال کیا جاسکے گا۔⁹⁵
دلائل اور ان کی تنقیح

1۔ اس رائے کی سب سے اہم دلیل یہ ہے کہ ان حضرات نے علت ربو کے معاملے میں "مطلق ثمنیت" کو ترجیح دی ہے جیسا کہ امام مالک کا قول ہے اور جسے محققین کی ایک جماعت نے رائج قرار دیا ہے۔⁹⁶ اس قول کی بنا پر جو بھی ثمن ہو، اس کے ساتھ نقدین کا حکم ملحق ہو جائے گا، جب تک کہ وہ حکم صرف ان دونوں کے ساتھ خاص نہ ہو، چنانچہ جن دلائل سے انہوں نے علت ربو کے سلسلے میں استدلال کیا ہے، وہ یہاں بھی پیش کرتے ہیں۔ شیخ ساعاتی فرماتے ہیں: میرے خیال میں برحق موقوف یہ ہے کہ کرنسی نوٹ زکوٰۃ کے معاملے میں بالکل سونا، چاندی کی طرح ہے، کیونکہ اس کے ساتھ مکمل طور پر نقدین کا برتاؤ کیا جاتا ہے، نیز کرنسی نوٹ کے مالک کے لیے اپنی چاہت کے مطابق کسی بھی وقت اس کا خرچ کرنا اور اس سے اپنی ضروریات پوری کرنا ممکن ہے۔⁹⁷

2۔ نقد کی تعریف میں انہوں نے اس بات کو رائج قرار دیا ہے کہ یہ ہر اس چیز کو شامل ہے جو مختلف اشیاء کے لیے معیار کے طور پر استعمال ہوتا ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ صرف سونا اور چاندی ہی ہو۔ جہاں تک سونا، چاندی کا ثمن خلقی ہونے کی بات ہے تو دلائل سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ جن حضرات نے اسے ثمن خلقی قرار دیا ہے، انہوں نے اپنی اس بات پر کوئی صریح دلیل پیش نہیں کی جس سے ان کا موقوف ثابت ہو سکے۔ ان فقہائے کرام نے نقد کی تعریف میں امام مالک کے قول کو بھی بطور دلیل پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: اگر لوگ چڑے کو بھی بطور ثمن استعمال کرنا شروع کر دیں تو سونا، چاندی کے عوض اس کی ادھار بیع کو میں ناپسند کروں گا۔⁹⁸ گویا کہ ان کے ہاں سونا چاندی کے احکام چڑے سے بنی کرنسی پر بھی رائج ہوں گے۔ امام ابن تیمیہ کے قول کو بھی انہوں نے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ درہم اور دینار کی کوئی لگی بندھی تحدید نہیں، بلکہ اس میں عرف کو مد نظر رکھا جائے گا، اس لیے کہ اصلاً یہ کوئی مقصودی چیز نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود ایک ایسا معیار ہے جس پر لوگوں کا تعامل ہو، گویا کہ درہم اور دنانیر بذات خود کوئی مقصودی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تعامل کے لیے ایک وسیلہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ اثمان ہیں، البتہ دیگر اموال کا معاملہ ان سے مختلف ہے کیونکہ وہاں بذات خود اس سے انتفاع لینا مقصود ہوتا ہے اور وسیلہ محض کا کسی خاص مادے یا خاص شکل کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، بلکہ اس سے مقصود حاصل ہونا چاہیے، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو۔⁹⁹ ان حضرات کے اور بھی دلائل ہیں جس کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے، اس لیے کہ یہاں ہمارے مد نظر ان آراء کی مکمل وضاحت نہیں، بلکہ بنیادی مطمح نظر یہ ہے کہ علت ربو میں اختلاف کی وجہ سے کرنسی نوٹ کی فقہی تکلیف میں اختلاف کیسے پیدا ہو جاتا ہے۔

برصغیر کے جمہور علمائے کرام کی رائے

برصغیر کے جمہور علمائے کرام کے نزدیک بیع صرف کے احکام کرنسی نوٹ پر جاری نہیں ہوتے، اس لیے کہ علت ربو کرنسی نوٹ میں موجود نہیں ہے۔ دراصل یہ حضرات امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تقلید کرتے ہیں اور چونکہ امام صاحب کے نزدیک علت ربو قدر اور جنس ہے (قدر سے مراد وزن یا کیل ہے)، لہذا ان کے نزدیک وہ اشیاء جو گنتی کر کے بیچی جاتی ہوں، ان میں ربو

کے احکام جاری نہیں ہوتے۔¹⁰⁰ سونا، چاندی چونکہ وزنی چیزیں ہیں، اس لیے ان میں ربو کے احکام جاری ہوتے ہیں، البتہ فلوس چونکہ عددی ہیں، لہذا اس پر ربو کے احکام جاری نہیں ہوتے، نیز اس میں معاملہ کرتے وقت تقابض بھی شرط نہیں ہے۔ جو حضرات علت ربو کے معاملہ میں امام ابو حنیفہؒ کی رائے کو رائج سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک کرنسی نوٹ پر بیع صرف کے احکام جاری کرنا اور اسے سونا اور چاندی کے حکم میں یکساں قرار دینا ممکن نہیں ہے، لہذا فقہی تکلیف اور احکام کے اعتبار ان کو فلوس کے ساتھ ملحق کرنا ہوگا۔ فلوس کے سلسلے میں احناف دو طرح کی رائے رکھتے ہیں: (1) امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک جب بائع اور مشتری فلوس کو متعین کر دیں تو اس میں تفاضل جائز ہے۔ (2) جب کہ امام محمدؒ کے نزدیک اس میں تفاضل جائز نہیں ہے کیونکہ تفاضل کے وقت اس میں کچھ فلوس ایسے ہوں گے جس کے بالمقابل عوض نہیں ہو گا جو کہ سود ہے۔ جہاں تک سونا، چاندی کا فلوس کے عوض ادھار بیچنے کا تعلق ہے تو احناف اس بیع کے جواز پر متفق ہیں۔ برصغیر کے بعض علماء کرنسی نوٹ کے معاملے میں امام ابو حنیفہؒ کی وہ رائے اپناتے ہیں جو انہوں نے فلوس کے بارے میں قائم کی تھی، جیسے شیخ احمد رضا خان اور ان کے ساتھ کچھ دیگر علماء، البتہ اکثر حضرات اس سلسلے میں امام محمدؒ کی رائے کو بہتر سمجھتے ہیں،¹⁰¹ کیونکہ امام ابو حنیفہؒ کی رائے پر فتویٰ دینا سود کا دروازہ کھول دینے کے مترادف ہے۔ یہی رائے عصر حاضر میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی بھی ہے۔ برصغیر کے علاوہ باقی دنیا میں بھی کثیر تعداد میں ایسے علماء موجود ہیں جو کرنسی نوٹ کو فلوس کے حکم میں خیال کرتے ہیں، ان حضرات میں سے اکثر کے ہاں کرنسی پر ربو کے احکام جاری نہیں ہوتے، جس طرح کہ جمہور فقہاء فلوس کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں،¹⁰² کیونکہ ان کے خیال میں فلوس کی مشابہت سونا، چاندی کی بنسبت عروض سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے معاصر محققین میں سے اکثر کا خیال یہ ہے کہ کرنسی نوٹ کو فلوس کے ساتھ ملحق کر کے فتویٰ دینے سے سود کا دروازہ کھل جائے گا، اس وجہ سے انہوں نے اس رائے کو قبول نہیں کیا۔ البتہ برصغیر کے علماء کی رائے پر تفصیلی بحث سے پتہ چلتا ہے کہ اس رائے کے مطابق سود کا دروازہ کھل جانے کا خدشہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بارے میں امام محمدؒ کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ امام محمدؒ کے قول پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ علت ربو کے سلسلے میں ان کا قول "قدر اور جنس" کا ہے جب کہ فلوس وزنی ہیں، نہ کیلی، بلکہ عددی ہیں، اس لیے اس میں تفاضل جائز ہونا چاہیے تھا اور باہم تبادلے کے وقت فوری قبضہ بھی ضروری نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ سارے احکام علت ربو کے تحت داخل ہونے کے بعد ہی جاری کیے جاسکتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ربو القرآن سے مراد وہ اضافی چیز ہے جو مقابل میں عوض سے خالی ہو، تو اگر ایک فلس کی بیع دو فلس کے عوض ہو تو اس صورت میں ایک فلس بغیر کسی عوض کے ہے اور یہ عقد میں مشروط بھی ہے، لہذا یہ ربو القرآن کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔¹⁰³ جہاں تک فی الفور قبضے کی بات ہے تو یہ بات فقہ میں مسلم ہے کہ صرف جنس بھی ربو النسیئہ کو حرام قرار دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔¹⁰⁴ اس لیے فلوس کا تبادلہ اگر فلوس کے ساتھ ہو تو طرفین سے قبضہ ضروری ہے۔ امام محمدؒ کی رائے بیان کرنے کے بعد ہم اختصار کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کرنسی نوٹ کے سلسلے میں برصغیر کے علماء کا بعینہ وہی موقف ہے جو امام محمدؒ کا فلوس کے سلسلے میں ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے نزدیک کرنسی نوٹ کے بعینہ وہی احکام ہیں جو امام محمدؒ کے نزدیک فلوس کے ہیں، لہذا جب کرنسی نوٹ کی بیع اپنے ہی جنس کے ساتھ ہو تو اس پر وہ احکام جاری ہوں گے جو فلوس کی بیع فلوس ہی کے ساتھ کرتے ہوئے جاری ہوتے ہیں اور جب اس کی بیع کسی اور ملک کی کرنسی یا سونا، چاندی کے ساتھ ہو تو

اس پر وہ احکام جاری ہوں گے جو فلوس کی بیع سونا، چاندی کے ساتھ کرتے ہوئے جاری ہوتے ہیں۔¹⁰⁵ ہندوستان کے اسلامک فقہ اکیڈمی کے اراکین میں سے اکثر نے شیخ تقی عثمانی کے موقف کو رائج قرار دیا ہے۔¹⁰⁶

مذکورہ بالا رائے پر مرتب ہونے والے احکام

- 1- جب کرنسی نوٹ نصاب تک پہنچ جائیں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔
- 2- سلم اور دیگر مالی عقود کے لیے یہ راس المال (Capital) بن سکتا ہے۔
- 3- اس کے عوض سونا، چاندی اور زیورات کی خرید و فروخت ادھار بھی جائز ہے۔
- 4- اس کی بیع جب اپنے ہی جنس کے ساتھ ہو تو اس میں ربو کے احکام جاری ہوں گے، لہذا تفضل اور ادھار معاملہ ناجائز ہوگا۔

5- جب اس کی بیع کسی اور جنس کے ساتھ ہو تو تفضل اور ادھار دونوں جائز ہوں گے۔¹⁰⁷

دلائل

جو حضرات کرنسی نوٹ کو فلوس کے ساتھ ملحق ٹھہراتے ہیں، ان کے دلائل حسب ذیل ہے:

1- دراصل اس رائے کے قائل حضرات علت ربو کے معاملے میں حنفی مذہب کو رائج سمجھتے ہیں، چنانچہ حنفیہ کے موقف کے مطابق کرنسی نوٹ پر بیع صرف کے احکام کا اجرا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہاں وزن مطلقاً مفقود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف کوئی مستقل چیز نہیں ہے بلکہ وہ ربو سے متفرع ہے کیونکہ اس کے احکام ان احادیث سے مستنبط ہیں جو ربو کے متعلق وارد ہو چکے ہیں اور بعض احادیث میں خصوصیت کے ساتھ سونا اور چاندی کا تذکرہ ہے، ان احادیث میں بھی صرف انہی احکامات کا ذکر ہے جو احادیث ربو میں مذکور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حنفیہ کے علاوہ دیگر فقہاء نے "باب الصرف" کا تذکرہ الگ سے نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس پر بحث ربو کے احکام کے ضمن میں کی ہے۔ علت کے علاوہ انہوں نے ربو اور صرف کے درمیان احکام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کیا۔ البتہ حنفیہ نے "باب الصرف" کو الگ سے بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے ربو اور صرف میں علت کے معاملے میں فرق نہیں کیا، لہذا "وزن کی علت" جس طرح دیگر موزونات کو شامل ہے، اسی طرح، سونا چاندی کو بھی شامل ہے۔¹⁰⁸ اس لحاظ سے صرف اور ربو کے ابواب ایک دوسرے میں ضم ہیں، اس لیے جب تک کسی چیز کے اندر ربو کی علت متحقق نہ ہو جائے، اس وقت تک اس پر صرف کے احکام جاری کرنا ممکن نہیں ہے اور حنفیہ کے قول کے مطابق یہ علت کرنسی نوٹ میں نہیں پائی جاتی۔

2- جب ہم سونا، چاندی، کرنسی نوٹ اور فلوس میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کرنسی نوٹ، سونا چاندی کی بنسبت فلوس کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ سونا، چاندی اپنے اصل کے اعتبار سے ثمن ہیں، ثمنیت کے لحاظ سے یہ کسی حکومت یا فرد کے محتاج نہیں ہیں اور ان دونوں میں قرار اور ثبات بھی ہیں جبکہ یہ اوصاف کرنسی نوٹ میں موجود نہیں ہیں۔

3- کرنسی نوٹ فلوس کی طرح ہیں کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے اصل کے اعتبار سے سامان (عروض) ہے اور حکومتی سرپرستی کی وجہ سے ثمن ہے بلکہ کرنسی نوٹ کی ثمنیت فلوس کی بنسبت زیادہ واضح طور پر اعتباری ہے کیونکہ فلوس کے اندر موجود میٹریل کی ایک قیمت ہوتی ہے، یا تو یہ دھات سے بنی ہوتی ہے یا اس طرح کی کسی اور چیز سے، جب کہ کرنسی نوٹ کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔¹⁰⁹

3- جو حضرات نقد کو فلوس کے ساتھ ملحق کرنے والے مؤقف کی تردید کرتے ہیں، وہ بنیادی اعتراض یہ پیش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ سود کا دروازہ کھل جائے گا، لیکن یہ اعتراض مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے پر وارد نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے ہاں اتحاد جنس کے وقت تفاضل اور ادھار معاملہ دونوں حرام ہیں، البتہ اگر جنس مختلف ہوں تو پھر ادھار معاملہ اور تفاضل دونوں جائز ہیں، ہاں ادھار معاملہ کرتے وقت ان کے نزدیک شرط یہ ہے کہ عقد بازاری قیمت کے مطابق مکمل ہو، تاکہ یہ کہیں سود کے لیے وسیلہ نہ بن جائے۔ اس شرط کے ساتھ سود کا مکمل دروازہ بند ہو جاتا ہے۔¹¹⁰

ترجیح

ترجیح کا تعلق دو مسائل سے ہے:

- 1- کیا کرنسی نوٹ امام محمد بن حسنؒ کے مذہب کے مطابق فلوس کے ساتھ ملحق ہوں گے یا سونا، چاندی کے ساتھ؟
 - 2- سونا، چاندی میں علت ربو "وزن" ہے یا "مطلق ثمنیت" یا "ثمنیت غالبہ"؟
- چونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے میں ضم ہے، لہذا دونوں کو الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دونوں کو ایک ہی بحث کے تحت بیان کرتے ہیں۔ ہماری رائے کے مطابق جمہور کی رائے بہتر و اولیٰ ہے، کیونکہ ان کی رائے پر مضبوط قسم کے اعتراضات بھی وارد نہیں ہوتے، نیز ان کی رائے قیاس کے موافق بھی ہے، کیونکہ "مطلق ثمنیت" کی علت میں حکم کے ساتھ مناسبت بھی ہے اور اس شدت کے ساتھ بھی جوڑ رکھتی ہے جو شارع علیہ السلام نے سونا، چاندی کے معاملے میں کی ہے۔ معاصر جمہور اہل علم نے اسی قول کو اختیار فرمایا ہے، نیز اس مؤقف کی تائید میں اکثر معاصر فقہی اکیڈمیوں نے قرارداد بھی منظور کیے ہیں۔ سعودی عرب کے علمائے کرام کی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا فتویٰ بھی یہی ہے۔¹¹¹ نیز رابطہ عالم اسلامی کے تحت مجمع الفقہ الاسلامی¹¹² اور AAOIFI نے اس حوالے سے قرارداد بھی منظور کیے ہیں۔¹¹³ اس رائے کی تائید میں اہم بات یہ ذکر کی جاتی ہے کہ "ثمنیت" سونا، چاندی کے ساتھ وصف مناسب ہے، اس لیے اسی کو علت قرار دینا چاہیے، امام مالکؒ اور ان کے علاوہ کچھ محققین کا یہی قول ہے۔ نیز اس کی تخریج شافعیہ کے قول کے مطابق بھی ممکن ہے جیسا کہ گزر چکا۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی رائے کے مطابق علت ربو چونکہ "وزن مع الجنس" ہے اور کرنسی نوٹ میں چونکہ یہ علت نہیں ہوتی، تو مناسب یہ ہے کہ اتحاد جنس کے وقت بھی کرنسی نوٹ میں تفاضل جائز ہو جیسا کہ علت کا تقاضہ ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے ربو الفضل کو یہاں اس وجہ سے حرام قرار دیا کہ یہ فضل خالی عن العوض ہو گا جو کہ ربو ہے جس کی ممانعت قرآن حکیم نے بیان فرمائی ہے۔ اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ بات تو فسادِ علت کی متقاضی ہے کیونکہ علت موجود نہیں ہے اور اس کے باوجود حکم موجود ہے۔ مزید برآں پھر کرنسی کے ہم جنس تبادلے کے وقت ادھار بھی جائز ہونا چاہیے تھا، اس لیے یہ کہنا کہ یہاں ربو کی ایک علت موجود ہے جو کہ ادھار کی حرمت کے لیے کافی ہے، یہ حکم ربو الحدیث سے مستنبط ہے، تو کرنسی کو ایک جگہ پہ ربو القرآن کے تحت داخل کیا گیا اور دوسری جگہ پہ ربو الحدیث کے تحت۔

- 4- جب ہم ربو کے متعلق احادیث میں غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک ﷺ نے چھ چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بعض روایات میں صرف دو چیزیں یعنی سونا، چاندی مذکور ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سونا، چاندی کے اندر کوئی ایسی خاص چیز ہے جو دیگر چار چیزوں میں نہیں ہے، اسی وجہ سے حنفیہ نے قبضہ کے معاملے میں سونا، چاندی اور دیگر اشیاء میں فرق روا رکھا ہے، چنانچہ انہوں نے سونا، چاندی میں بیع الغائب بالناجز کی بھی اجازت نہیں دی ہے جب کہ دیگر وزنی اشیاء میں اس کی اجازت

ہے۔ بیع الغائب بالناجز کی صورت یہ ہے کہ گندم کو گندم کے عوض بیچا جائے اور ایک طرف سے قبضہ ہو جائے، جب کہ دوسرا فریق کہہ دے کہ گندم میرے پاس گھر میں موجود ہے اور میں کسی وقت تک آپ کو دے دوں گا، اس طرح سے عقد درست ہو جائے گا اور گندم متعین ہو جائے گا۔ یہ بیع النسیئہ نہیں ہے، اس لیے کہ بیع النسیئہ میں مدت متعین ہوتی ہے اور اس مدت سے قبل مطالبہ نہیں کیا سکتا، جب کہ یہاں پر مدت متعین نہیں ہے، بلکہ قبضہ کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کیا گیا، جو کہ احتلاف کے ہاں جائز ہے۔ سونا، چاندی میں ان کے ہاں ایسا کرنا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ سونا، چاندی قبضہ کرنے سے ہی متعین ہو سکتے ہیں، اس لیے اس میں قبضہ ضروری ہے۔¹⁴ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چھ اشیا کے دو فریق ہیں اور دونوں کے مابین فرق ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس زمانے کی جن چھ چیزوں کے بارے میں احادیث وارد ہو چکی ہیں، ان میں چار اشیا کھانے پینے کی چیزیں اور بیعہ تھیں اور سونا، چاندی ثمن تھے، لہذا عقل ان دونوں انواع کے درمیان فرق کا تقاضہ کرتا ہے کہ پہلی چار اشیا کی علت الگ ہو اور سونا چاندی کی علت الگ ہو جو کہ صرف سونا، چاندی ہی کے ساتھ خاص ہو اور ان کے علاوہ کسی اور طرف متعدی نہ ہو، جب تک کہ وہ چیز ان دونوں کی مثل نہ ہو۔ اگر باقی اشیا کی طرح "وزن" کو سونا، چاندی کے لیے بھی علت ٹھہرایا جائے تو یہ بات عقلی طور پر درست نہیں ہے۔ ربو کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث میں تطبیق یوں بھی ممکن ہے کہ سونا، چاندی میں "ثمنیت" کو علت ٹھہرایا جائے اور نصوص میں "وزن یا کیل" کی ترجیح کے حوالے سے جو اشارات ملتے ہیں، اس کو باقی چار اشیا کے ساتھ خاص کر دیں۔ اس طرح نصوص اور قیاس کے مابین تطبیق بھی ہو جائے گی۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ نص کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح نہیں دی جاتی، لیکن یہاں جو نص موجود ہے، اس میں یہ صراحت نہیں کہ "وزن" ہی علت ہے، بلکہ اس طرف صرف اشارہ ہے۔ اگر سونا، چاندی کے وزنی ہونے میں غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وصف محض اتفاقی ہے، حکم کے لیے مدار بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے حضور پاک ﷺ کے زمانے میں اکثر اسفار اونٹ اور گھوڑے کے ذریعے ہو کرتے تھے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ قصر کی حکمت "دفع مشقت" ہے اور علت "اونٹوں یا گھوڑوں کے ذریعے سفر کرنا" ہے اور حد سفر اڑتالیس میل ہے، اس لحاظ سے آج کل کے زمانے کے اسفار پر قصر کے حکم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ایسا کہنا اس لیے غلط ہوگا کہ اونٹ یا گھوڑے کے ذریعے سفر کرنا محض اتفاقی معاملہ تھا، اس کو حکم کے لیے مدار بنانا درست نہیں، اسی طرح سونا، چاندی کا وزنی ہونا بھی محض ایک اتفاقی وصف ہے، جس کو حکم کے لیے مدار بنانا درست نہیں ہے۔

یہ بات مسلم ہے کہ حکم کا مدار علت پر ہوتا ہے نہ کہ حکمت پر، کیونکہ حکمت ایک مخفی امر ہے جس میں حالات اور اشخاص کی تبدیلی سے رد و بدل ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو حکم کا مدار بنانا درست نہیں ہے، البتہ اس بات کی وجہ سے حکمت کے وجود کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی حکمت ہے جس کا لحاظ رکھتے ہوئے شریعت نے سونا، چاندی کو بعض احکام کے ساتھ مخصوص کر دیا؟ یہ کہنا تو ممکن نہیں کہ اس کے پس پردہ کوئی حکمت ہے ہی نہیں، اگر اس میں کوئی حکمت ہے تو وہ حکمت کرنسی نوٹ اور فلوس کے اندر بھی پائی جاتی ہوگی، اگر نہیں تو وہ کون سی دلیل ہے جو اس حکمت کو سونا، چاندی کے ساتھ خاص کرتی ہے؟ - غالب گمان یہ ہے کہ فقہائے کرام علت میں اس کا لحاظ رکھتے تھے کہ یہ غیر منصوص چیزوں کو شامل ہو، چونکہ قدیم فقہاء کے زمانے میں رائج کرنسی صرف سونا اور چاندی تھی، لہذا فقہائے کرام کا خیال یہ تھا کہ اگر "ثمنیت" کو علت ٹھہرایا جائے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کے علاوہ ثمن کوئی نہیں ہے، تو سونا چاندی کو دیگر اشیا سے مستقل کر کے ایک خاص صنف بنانے اور ان دونوں کے لیے مستقل علت ٹھہرانے کا داعیہ نہیں تھا۔ جہاں تک فلوس کی بات ہے تو

اس کی مشابہت عروض کے ساتھ زیادہ تھی اور اس زمانے میں اس بات کا کوئی تصور تک نہیں کیا جاسکتا تھا کہ کرنسی نوٹ کی طرح ایک مستقل چیز وجود میں آئے گی، اس کے برعکس بعض فقہاء نے اس صورتِ حال کو بھانپ لیا تھا، چنانچہ انہوں نے سونا، چاندی کی تعلیل ایک مستقل علت کے ساتھ کر دی تاکہ کرنسی نوٹ کی طرف اس کا متعدی کرنا ممکن ہو جائے۔ غالب گمان یہ ہے کہ اگر متقدمین فقہائے کرام آج موجود ہوتے اور آج کے حالات کا مشاہدہ کرتے کہ کیسے کرنسی نوٹ بازاروں میں رائج ہیں اور ان کے بعد معاشی نظام میں کیسی کیسی تبدیلیاں رونما ہوئیں، تو وہ بھی ان حضرات کی تائید فرماتے جنہوں نے "ثمنیت" کو علت ٹھہرایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاصر جمہور اہل علم نے اس رائے کو اختیار فرمایا ہے باوجود یہ کہ ان حضرات میں سے حنفی، شافعی اور حنبلی بھی ہیں، انہوں نے اس معاملے میں اپنے ائمہ کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے وہ رائے اور موقف اپنالیا جو ان کی نظر میں درست ہے۔ ایک اور اہم بات سے بھی صرف نظر کرنا ممکن نہیں کہ شارع علیہ السلام نے اثمان کے معاملے میں شدت جب کہ سامان و عروض کے معاملے میں رخصت سے کام لیا ہے، اگر اس موقف کو اختیار کیا جائے تو اس میں صورتِ حال برعکس ہے، بایں طور کہ جو کے عوض گندم کی ادھار بیع اس موقف کے مطابق ناجائز ہے اور ڈالر کے عوض روپے کی ادھار بیع جائز ہے، اس طرح سے انہوں نے سامان کی نسبت اثمان میں زیادہ رخصت دی۔ یہ بات مسلم ہے کہ یہ حکم علت کی وجہ سے ہے، لیکن یہ علت کے ضعف کی علامت ہے کہ اس کے ماننے سے مقاصدِ شریعت کے برعکس ایک موقف کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔

متقدمین احناف نے سونا، چاندی، اور لوہے کو حکم کے اعتبار سے برابر ٹھہرایا تھا کیونکہ ان کے نزدیک سب میں علت "وزن" ہی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سونا، چاندی میں مزید قیود لگا دیئے، چنانچہ انہوں نے اس میں بیع الغائب بالناجز کو ناجائز قرار دیا، جو ان کے ہاں لوہے اور دیگر وزنی اشیا میں جائز ہے، جب کہ اس موقف میں صورتِ حال برعکس ہے۔

حنفی موقف کے حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے

مذکورہ بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علت کے حوالے سے حنفیہ کا موقف کمزور ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی تصنیف "تکملہ فتح الہلم" میں بھی اس موقف کو ضعیف قرار دے کر مالکیہ کی رائے کو قوی قرار دیا ہے۔¹¹⁵

چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میری رائے کے مطابق مالکیہ کی رائے نظری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے زیادہ رائج ہے۔ نظری اعتبار سے اس طرح کی حضور پاک ﷺ نے ربو الفضل کو سدِ ذریعہ کے طور پر حرام فرمایا کہ اس کو ربو النسیئہ کی طرف رستہ نہ بنایا جائے جو کہ نص قرآن کی رو سے حرام ہے۔ اب اس ربو کی طرف تدریجی طور پر بڑھنا ان اشیا میں ممکن ہے جو اثمان کے قبیل سے ہو یا تعامل کے اعتبار سے اثمان کے قائم مقام ہو۔ اہل عرب اور خصوصاً دیہاتی لوگ سونا، چاندی کو بہت کم استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کے زیادہ تر معاملات ان اشیا کے ذریعے ہوا کرتے تھے جو ان کے پاس آسانی سے موجود ہوتی تھیں، جن چھ چیزوں کا حدیث میں ذکر آیا ہے، یہی چیزیں وہ بطورِ ثمن استعمال کیا کرتے تھے، اس لیے ان چیزوں میں قدرِ مشترک یہ ہے کہ یہ بطورِ ثمن استعمال ہوتی تھیں، ان میں سونا، چاندی خلقی طور پر ثمن تھے، جب کہ باقی چیزیں تعامل کی وجہ سے ثمن کی طرح تھیں۔ یہ نکتہ باقی وزنی اور کیلی اشیا میں موجود نہیں۔ عملی لحاظ سے اس طرح کہ قدر کو علت قرار دینے کے باعث حنفیہ کو عملی طور پر کئی طرح کے مشکلات کا سامنا ہے، جو درج ذیل ہیں:

- مثلاً: روئی کو چاندی کے دراہم کے عوض ادھار بیچنا حنفی فقہاء کی بیان کردہ علت کے مطابق حرام ہونا چاہیے، جب کہ حنفی فقہاء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔¹¹⁶

- فلوس چونکہ وزنی نہیں ہیں، اس لیے اس کو فلوس کے بدلے بیچتے وقت قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں تفاضل جائز ہو، لیکن حنفیہ نے اسے حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ اصطلاحی اعتبار سے اثمان ہیں اور اثمان متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔
- حنفیہ کے قول کے مطابق علت (قدر) موجود ہونے کی وجہ سے کسی وزنی چیز میں بیع سلم کرنا اور سونا، چاندی کو اس کی قیمت بنانا ناجائز ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ربوا الفضل کی حرمت سے اسے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔

حنفیہ کی بیان کردہ علت پر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس اعتراض کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے جس ک کا تذکرہ ہم پچھلے صفحات میں کر چکے ہیں کہ کسی چیز کا کیلی یا وزنی ہونا زمانے اور جگہ کے اعتبار سے مختلف ہو تا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں یہ بات زیر بحث رہی ہے کہ کیلی اور وزنی چیز میں فرق کیسے کیا جائے؟ چنانچہ ان کے ہاں مشہور یہ ہے کہ کسی چیز کے کیلی یا وزنی ہونے پر اگر نص وارد ہو تو وہ ہمیشہ اسی طرح ہی رہے گی، البتہ جہاں نص نہ ہو وہاں معاملہ عرف پر محمول کیا جائے گا، البتہ امام ابو یوسف کا موقف اس سلسلے میں دیگر احناف سے مختلف ہے، ان کے نزدیک تمام اشیا کے کیلی یا وزنی ہونے کا دار و مدار صرف عرف پر ہے۔ علامہ ابن ہمام کا میلان بھی اسی طرف ہے۔

شیخ نے آخر میں لکھا ہے: جہاں تک مالکیہ کی تعلیل کا تعلق ہے تو وہاں عملاً یہ مشکلات نہیں پائی جاتیں، کیونکہ ان کی بیان کردہ دونوں علتیں یعنی "ثمنیت اور غذا ہونا" ربوا الفضل کے احکام کو باہم مربوط بنا دیتی ہیں اور یہ تدریجی طور پر ربوا النسیئہ کی طرف لے جانے والی اس منصوبی حکمت کے قریب بھی ہے۔¹¹⁷ یہ بات بھی مد نظر رہے کہ حضرت شیخ نے یہاں مالکیہ کی طرف جس قول کی نسبت کی ہے، اس سے مراد وہ قول ہے جس میں امام مالک سے سونا، چاندی میں "مطلق ثمنیت" کا علت ہونا مروی ہے۔ حضرت شیخ نے اپنے رسالہ "أحكام الأوراق النقدية" میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ "ثمنیت مطلقہ" کو ربوا کی علت قرار دینا مالکیہ کی رائے ہے۔¹¹⁸

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سونا، چاندی میں "وزن" کو علت قرار دینا علمی اور عملی طور پر کمزور موقف ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ سونا، چاندی میں یا تو "ثمنیت مطلقہ" کو علت قرار دیا جائے یا "ثمنیت غالبہ" کو بایں طور علت قرار دیا جائے جو کرنسی نوٹ کو بھی شامل ہو، کیونکہ کرنسی نوٹ بھی مروجہ ثمن ہے، لہذا اس بات کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ ربوا اور صرف کے احکام سونا، چاندی اور کرنسی نوٹ پر یکساں طور پر لاگو ہوں گے۔

خاتمہ

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ نتائج اخذ کیے جاسکتے ہیں:

- 1- کرنسی نوٹ بذاتِ خود ثمن ہے جس پر ربوا اور صرف کے احکام جاری ہو سکتے ہیں۔
- 2- کرنسی نوٹ کو فقہی احکام میں سونا، چاندی کے ساتھ ملحق کرنا فقہی لحاظ سے زیادہ قرین قیاس ہے۔
- 3- کرنسی نوٹ کو بعض بنیادی فروق کی وجہ سے فلوس یعنی دھاتی سکوں کے ساتھ ملحق کرنا درست نہیں۔
- 4- سونا، چاندی میں علت ربوا کے حوالے سے مالکیہ کی رائے زیادہ درست اور شرعی مقاصد سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔
- 5- علت کے بارے میں حنفیہ کی رائے پر کافی اشکالات وارد ہوتے ہیں جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

6- کرنسی نوٹ کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے اگرچہ حنفیہ کی رائے پر مبنی ہے لیکن اس پر مضبوط قسم کے اعتراضات وارد ہوتے ہیں، اس لیے جمہور کی رائے اس کے مقابلے میں زیادہ لائق اعتناء، قرین قیاس اور اقرب الی الصواب ہے۔

References

- ¹ Muslim bin Al-Hajjaj (261H), *Al-Sahih, Kitab al-Buyu', Bab "al-Sarf wa Bai' al-Zahab bil Wareq Naqdan"* (Beirut: Dar al-Jil wa Dar al-Afaq al-Jadidah) 3:44, No: 4147.
- ² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (256H), *Al-Jami' al-Sahih, Kitab al-Buyu'* (Cairo: Dar al-Sha'b, 1407H), 3:97, No: 2177; Sahih Muslim, 5:42, No: 4138.
- ³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad, Ibn Hazm al-Zahiri (456H), *Al-Muhalla bi al-Athar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1425H), 7:403; Shams al-Din Ibn al-Qayyem al-Joziyyah (751H), *Ailam al-Moqieen an Rabb al-Alameen* (Beirut: Dar al-Jil, 1973), 2:156.
- ⁴ Ibn al-Qayyem al-Joziyyah, *Ailam al-Moqieen an Rabb al-Alameen*, 2:156
- ⁵ Imam al-Haramain Abu al-Ma'li Abd al-Malik bin Abdullah al-Juwaini (478H), *Al-Burhan fi Usool al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418H), 2:38.
- ⁶ Kamal-al-Din Ibn al-Hummam (681H), *Fath al-Qadeer Sharah Al-Hidayah* (Beirut: Dar al-Fikr), 7:12.
- ⁷ Zain al-Din bin Ibrahim, Ibn Nujaim al-Misri (970H), *Al-Bahr al-Rayeq Sharah Kan al-Daqayeq* (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami), 6:137; Kamal-al-Din Ibn al-Hummam, *Fath al-Qadeer*, 4:7; Ala ad Din Al-Kasani (587H), *Badaye' al-Sanaye' Fi Tarteeb al-Sharaye'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1406H), 5:183; Fakhr al-Din al-Zailai' (743H), *Tibeen al-Haqayeq Sharah Kanz al-Daqayeq* (Cairo: Al-Matba' al-Kubra al-Amiriyyah, 1313H), 4:86.
- ⁸ Alauddin Ali bin Sulaiman Al-Mardawi (855H), *Al-Insaf Fi Marifat al-Rajih Min al-Khilaf Ala Madhab al-Imam Ahmad bin Hambal* (Beirut: Dar Ahya al-Turath al-Arabi, 1419H), 5:13; Muaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad Ibn Qudamah al-Muqaddasi (620H), *Al-Mughni Fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hambal al-Shaibani* (Beirut: Dar al-Fikr, 1405H), 4:135; Mansoor bin Younas al-Bahuti (1051H), *Kashaf al-Qina An Matn al-Iqna'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 3:251; Abd ur Rahman bin Muhammad, Ibn Qudamah al-Muqaddasi (682H), *Al-Sharh al-Kabir Ala Matn al-Muqne'* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi Lin Nashr wa al-Tauzie'), 4:125-126.
- ⁹ Abd ur Rahman bin Muhammad, Ibn Qudamah, *Al-Sharh al-Kabir*, 4:125-126; Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 4:135.
- ¹⁰ Alauddin Al-Kasani, *Badaye' al-Sanaye'*, 5:184.
- ¹¹ Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Sahih, Kitab al-Buyu'*, 5:47, No: 4165; Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Sahih, Kitab al-Wakalah*, 3:129, No: 2303.
- ¹² Fakhr al-Din al-Zaila'I (743H), *Tibyeen al-Haqayeq Sharh Kanz al-Daqayeq* (Cairo: Al-Matba' al-Kubra al-Amireyyah, 1313H), 4:86.
- ¹³ Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Sahih, Kitab al-Buyu'*, 5:45, No: 4152.
- ¹⁴ Shams al-Ayemma al-Sarakhsi (583H), *Kitab al-Mabsoot* (Beirut: Dar al-Fikar, 1421H), 12:203-204.
- ¹⁵ Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Sahih, Kitab al-Buyu'*, 5:42, No: 4141.
- ¹⁶ Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Sahih, Kitab al-Buyu'*, 5:46, No: 4162.

- ¹⁷ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-Imam (241H), *Al-Musnad, Musnad Abdullah bin Umar* (Cairo: Dar al-Hadith, 1416H), 7:27, No: 5885.
- ¹⁸ Setar bin Sawab al-Ja'eed, *Ahkam al-Aoraaq al-Naqdiyyah wa al-Tijariyyah Fi al-Fiqh al-Islami* (MS Thesis, Jami'a Umm al-Qura, Makkah, 1405-1406H), pp: 88-89; Mansoor bin Younas al-Bahuti, *Kashaf al-Qina'*, 3:254; Abu Bakkar al-Sarakhsi, *Al-Mabsoot*, 12:203-204; Fakhr al-Din al-Zaila'ee, *Tibeen al-Haqayeq*, 4:87.
- ¹⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim (405H), *Al-Mustadrak Ala al-Sahihain, Kitab al-Buyu'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411H), 2:49, No: 2282.
- ²⁰ Abu al-Hassan Ali bin Umar al-Dar al-Qutni (385H), *Al-Sunan, Kitab al-Buyu'* (Beirut: Muwassisa al-Risalah, 1424H), 3:407, No: 2853.
- ²¹ Fakhr al-Din al-Zaila'ee, *Tibeen al-Haqayeq*, 4:86.
- ²² Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Tahawi (321H), *Sharah Mushkil al-Asaar* (Beirut: Muwassisa al-Risalah, 1415H), 3:338; Abu Muhammad Ali bin Ahmad, Ibn Hazam al-Zahiri (456H), *Al-Muhalla bi al-Asaar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1425H), 7:424.
- ²³ Ibn Hazam, *Al-Muhalla bi al-Asaar*, 7:424.
- ²⁴ Abu Bakkar Ahmad bin al-Hussain al-Baihaqi (458H), *Al-Sunan al-Kubra, Kitab al-Buyu'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424H), 5:469, No: 10520..
- ²⁵ Yahya bin Sharf al-Nawawi, *Al-Majmoo' Sharh al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr), 9:402.
- ²⁶ Muhammad bin Ali al-Shaukani (1250H), *Al-Sayl al-Jarrar al-Mutadaffiq ala Hadayeq al-Izhar*, (Beirut: Dar Ibn Hazam, 1425H), P. 507.
- ²⁷ Ahmad bin al-Hussain al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra, Kitab al-Buyu'*, 5:469.
- ²⁸ Ibn Hazam, *Al-Muhalla*, 7:422-423.
- ²⁹ Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Tahawi (321H), *Sharh Ma'ani al-Asaar, Kitab al-Sarf, Bab al-Riba* (Aalam al-Kutub, 1414H), 4:66, No:5761.
- ³⁰ Ahmad bin al-Hussain al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra, Kitab al-Buyu'*, 5:469, No: 10520. For more details, see Sitr al-Ja'eed, *Ahkam al-Aoraaq al-Naqdiyyah*, pp. 99-100.
- ³¹ Ali bin Umar Al-Dar al-Qutni, *Al-Sunan*, 3:407.
- ³² Muhammad bin Ali Al-Shaukani, *Al-Sayl al-Jarrar*, p.507.
- ³³ Ibn Hazam, *Al-Muhalla*, 7:425.
- ³⁴ Sitr bin Sawab al-Ja'eed, *Ahkam al-Aoraaq al-Naqdiyyah*, p. 97
- ³⁵ Ibn Hazam, *Al-Muhalla*, 7:425.
- ³⁶ Sitr bin Sawab al-Ja'eed, *Ahkam al-Aoraaq al-Naqdiyyah*, pp. 97-98.
- ³⁷ Abu al-Hassan Ali bin Muhammad al-Mawardi (450H), *Al-Hawi al-Kabir Fi Fiqh Madhab al-Imam al-Shafi'* (*Sharh Mukhtasar al-Muzani*) (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1414H), 5:91-92.
- ³⁸ Ibn al-Qayyem al-Jaoziyyah, *'Ailam al-Moqi'een*, 2:156.
- ³⁹ Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Sahih, Kitab al-Buyu'*, 5:55, No: 4203.
- ⁴⁰ Fakhr al-Din al-Zaila'I, *Tibeen al-Haqayeq*, 4:88.
- ⁴¹ Kamal-al-Din Ibn al-Hummam, *Fath al-Qadeer*, 7:14.
- ⁴² Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, 5:87.
- ⁴³ Ibn al-Qayyem al-Jaoziyyah, *'Ailam al-Moqi'een*, 2:156.
- ⁴⁴ Shah Waliullah al-Dihlawi (1176H), *Hujatullah al-Balighah* (Beirut: Dar Ihya al-Uloom, 1413H), 2:124.
- ⁴⁵ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, 5:87; Ibn Hazam, *Al-Muhalla*, 7:423-424.

- ⁴⁶ Abdullah bin Sulaiman bin Manee', *Al-Wareq al-Naqdi, Haqiqatuhu Tarikhuhu Qimatuhu Hukumuhu*, 2nd Edition 1404H, pp. 89-90.
- ⁴⁷ Zakariyya bin Muhammad al-Ansari (926H), *Asna al-Matalib Fi Sharh Roz al-Talib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1422H), 2:22; Shams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Khateeb al-Sharbini (977H), *Al-Iqna' Fi Hall Alfaz Abi Shaja'* (Beirut: Dar al-Fikr), 2:279; Yahya bin Sharf al-Nawawi (676H), *Rozat al-Talibeen wa Umadat al-Muftiyeen* (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1405H), 3:378.
- ⁴⁸ See; Al-Shaikh Ali al-Adawi (1189H), *Hashiyah al-Adawi* (Egypt: Matba' Muhammad Afandi Mustafa), 3:441; Ibn Abd al-Barr al-Namri (463H), *Al-Tamhid Lima Fi al-Muwatta Min al-Ma'ani wa al-Asanid* (Muassasa al-Qurtaba), 4:89; Ahmad bin Ghunaim al-Nafrawi (1126H), *Al-Fawakeh al-Dawani Ala Risalah Ibn Abi Zaid al-Qirwani* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418H), 2:119.
- ⁴⁹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 4:135; Abdur Rahman bin Muhammad, Ibn Qudamah, *Al-Sharh al-Kabir*, 4:126.
- ⁵⁰ Shah Waliullah al-Dihlawi, *Hujatullah al-Balighah*, 2:124.
- ⁵¹ Ibn al-Qayyem al-Jaoziyyah, *'Ailam al-Moqi'een*, 2:156; Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, 5:91-92.
- ⁵² Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *AL-Majmoo'*, 9:393.
- ⁵³ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Shairazi (476H), *Al-Muhazzab Fi Fiqh al-Imam al-Shafi'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416H), 2:26.
- ⁵⁴ Ibn Nujaim, *Al-Bahr al-Rayeq*, 6:138.
- ⁵⁵ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, 5:92.
- ⁵⁶ Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *AL-Majmoo'*, 9:393.
- ⁵⁷ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, 5:91.
- ⁵⁸ Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali Abd al-Malik bin Abdullah al-Juwaini (478H), *Al-Burhan Fi Usool al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418H), 2:539.
- ⁵⁹ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, 5:91.
- ⁶⁰ Dr. Ahmad Hassan, *Al-Araq al-Naqdiyyah*, p. 248.
- ⁶¹ Yahya bin Sharf al-Nawawi, *Al-Majmoo'*, 9:394; Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, 5:92.
- ⁶² Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, 5:93; *Al-Majmoo' Shah al-Muhazzab*, 9:393.
- ⁶³ Sitr bin Sawab al-Ja'eed, *Ahkam al-Aoraaq al-Naqdiyyah*, p. 124.
- ⁶⁴ Ali al-'Adawi, *Hashiyah al-'Adawi*, 3:441; Ahmad bin Ghunaim Al-Nafrawi, *Al-Fawakeh al-Dawani*, 2:119; Imam Malik bin Anas (179H), *Al-Mudawwanah al-Kubra Riwayah al-Imam Sahnoon bin Sa'eed al-Tanookhi An al-Imam Abd al-Rahman bin Qasim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 3:5.
- ⁶⁵ See; Imam Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, 3:5.
- ⁶⁶ Abu Bakkar Abdullah bin Muhammad bin Abi Shaibah (235H), *Al-Musannaf, Kitab al-Buyu' wa al-Aqdhiyah* (Al-Dar al-Salfiyyah al-Hindiyyah al-Qadeemah), 7:267, No: 23532.
- ⁶⁷ Taqi al-Din Ahmad bin Abd al-Haleem bin Taimiyyah (728H), *Majmoo' al-Fatawa* (Egypt: Dar al-Wafa, 1426H), 29:471.
- ⁶⁸ Muhammad bin Abdullah, Abu Bakkar Ibn al-Arabi (543H), *'Arizah al-Ahwazi Sharh al-Tirmizi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 5:310.
- ⁶⁹ Sitr bin Sawab al-Ja'eed, *Ahkam al-Aoraaq al-Naqdiyyah*, p. 125.

- ⁷⁰ Abdullah bin Sulaiman bin Manee', *Al-Wareq al-Naqdi*, p. 87.
- ⁷¹ See; Taqi al-Din Ibn Taimiyyah, *Majmoo' al-Fatawa*, 29:468.
- ⁷² Dr. Ahmad Hassan, *Al-Araq al-Naqdiyyah*, p. 220.
- ⁷³ Taqi al-Din Ibn Taimiyyah, *Majmoo' al-Fatawa*, 29:459.
- ⁷⁴ Taqi al-Din Ibn Taimiyyah, *Majmoo' al-Fatawa*, 29:468.
- ⁷⁵ Alauddin al-Mardawi, *Al-Insaf*, 5:35.
- ⁷⁶ Shamsuddin Abu Abdullah al-Zarkashi (772 H), *Sharh al-Zarkashi ala Mukhtasar al-Khiraqi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1423H), 2:16; Alauddin al-Mardawi, *Al-Insaf*, 5:16.
- ⁷⁷ Sitr bin Sawab al-Ja'eed, *Ahkam al-Araaq al-Naqdiyyah*, p. 131.
- ⁷⁸ Taqi al-Din Ibn Taimiyyah, *Majmoo' al-Fatawa*, 29:471.
- ⁷⁹ Muhammad Rasheed bin Ali Raza (1354H), *Al-Mannar* (Al-Haiat al-Misriyyah al-Aammah li al-Kitab, 1990), 7:153.
- ⁸⁰ Sitr bin Sawab al-Ja'eed, *Ahkam al-Araaq al-Naqdiyyah*, pp. 132-133.
- ⁸¹ Abdullah bin Sulaiman bin Manee', *Al-Wareq al-Naqdi*, pp. 113-127.
- ⁸² Ahmad Abdurrahman Al-Sa'ati (1377H), *Bulugh al-Amani min Asrar al-Fath al-Rabbani* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi), 8:251.
- ⁸³ Dr. Wahba Zuhaili (1436H), *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damascus: Dar al-Fikr, 5:3672.
- ⁸⁴ Hai'at Kibar al-'Ulama bi al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Saudiyyah, *Abhath Hai'at Kibar al-'Ulama* (Riyadh: Al-Riaasa al-Aammah li Idaraat al-Buhuth al-Ilmiyyah wa al-Ifta wa al-Dawah wa al-Irshad, 1409H), 1:57.
- ⁸⁵ Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami al-Sadirah an Munazzamah al-Mutamar al-Islami Jeddah, Al-Adad al-Salith, Qarar Raqam: 9, p 23.
- ⁸⁶ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial-Institutions, *Shari'ah Standards, 1431H*, Standard No: I.P. 4.
- ⁸⁷ Dr. Ahmad Hassan, *Al-Araq al-Naqdiyyah*, pp. 244-251.
- ⁸⁸ Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Rozat al-Talibeen*, 3:380.
- ⁸⁹ Alauddin al-Mardawi, *Al-Insaf*, 5:12.
- ⁹⁰ Muhammad bin Muflih al-Muqaddasi (763H), *Al-Furo' Ma' Tashih lil Mardawi* (Beirut: Muwassisah al-Risalah, 1424H), 6:294.
- ⁹¹ Ibn al-Hajar al-Haithami (974H), *Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra* (Al-Maktabah al-Islamiyyah), 2:182.
- ⁹² Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, 5:93.
- ⁹³ Dr. Ahmad Hassan, *Al-Araq al-Naqdiyyah*, pp. 244-251.
- ⁹⁴ Abdurrahman bin Abi Bakkar, Jalal al-Din al-Sayuti (911H), *Al-Hawi lil Fatawa* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421H), 2:305.
- ⁹⁵ Qararat al-Majma' al-Fiqhi al-Islami al-Tabi' li Rabitah al-Aalam al-Islami, Makkah, 4th Edition, pp. 101-102.
- ⁹⁶ The details are mentioned in the beginning.
- ⁹⁷ Ahmad Abdurrahman al-Sa'ati, *Bulugh al-Amani*, 8:251.
- ⁹⁸ Imam Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, 3:5.
- ⁹⁹ Taqi al-Din Ibn Taimiyyah, *Majmoo' al-Fatawa*, 29:251-252.
- ¹⁰⁰ Alauddin al-Kasani, *Badaye' al-Sanaye'*, 5:245.
- ¹⁰¹ For details see; Asadullah, Inamullah, *Mauqif Ilhaq al-Wareq al-Naqdi bil Fulus-Dirasah Fiqhiyyah Naqdiyyah* (BURJIS, Research Journal of University of Sciences and Technology, Bannu, Vol. 5, Issue. 1, November-January 2019, pp. 91-117).

- ¹⁰² For details see, Asadullah, Inamullah, *Mauqif Ilhaq al-Wareq al-Naqdi bil Fulus-Dirasah Fiqhiyyah Naqdiyyaah*, pp. 91-117.
- ¹⁰³ Akmal al-Din al-Babirti (786H), *Al-Inayah Sharh al-Hidayah* (Beirut: Dar al-Fikr), 7:20; Kamaluddin Ibn al-Hummam, *Fath al-Qadeer*, 7:21.
- ¹⁰⁴ See; Ibn Nujaim says, *Inna al-Jins bi Inferadihi Yahrum al-Nasa'*, *Al-Bahr al-Rayeq*, 6:139.
- ¹⁰⁵ Justice Muhammad Taqi Usmani, *Buhuth Fi Qadhayah Fiqhiyyah Mu'asarah* (Damascus: Dar al-Qalam, 1424H), pp. 143-172; Muhammad Taqi Usmani, *Fiqh al-Buyu' ala Madhahib al-'Arba'h Ma' Tarbiqatiha al-Mu'asarah Muqarinan bi al-Qawanin al-Wadh'eyyah* (Karachi: Maktabah Ma'arif al-Quran, 1436H), 2:733-736.
- ¹⁰⁶ Majma' al-Fiqh al-Islami India, *Jadeed Fiqhi Mabathith* (Karachi: Idarah al-Quran wal-'Uloom al-Islamiyyah, 2009), 4:55.
- ¹⁰⁷ Muhammad Taqi Usmani, *Fiqh al-Buyu'*, 2:733.
- ¹⁰⁸ However, the Hanafis have differentiated among gold, silver and other weighable commodities with the title of "*Bai' al-Ghayeb bin Najiz*", as mentioned earlier.
- ¹⁰⁹ Muhammad Taqi Usmani, *Fatawa Usmani* (Karachi: Maktabah Ma'arif al-Quran, 1431H), 3:143.
- ¹¹⁰ For details see: Asadullah, *Al-Salam fi al-Auraq al-Naqdiyyah Bain al-Shari'ah wa al-Tatbiq al-Masrafi* (al-Dirasaat al-Islamiyyah, Research Journal Issued by Islamic Research Institute, International Islamic University Islamabad, April-May 2018, pp. 47-72).
- ¹¹¹ Hai'at Kibar al-'Ulama bi al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Saudiyyah, *Abhath Hai'at Kibar al-'Ulama*, 1:57.
- ¹¹² Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami, al-Sadirah an Munazzamah al-Mu'tamar al-Islami Jeddah, Al-Adad al-Salith, Qarar No: 9, p. 23.
- ¹¹³ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, *Shari'ah Standards, 1431H*, Standard No: I,P. 4.
- ¹¹⁴ Muhammad Taqi Usmani, *Islam aur Jadeed Ma'shi Masayel* (Lahore: Idarah Islamiat, 1429H), 2:44.
- ¹¹⁵ Justice Muhammad Taqi Usmani, *Takmilah Fath al-Mulhim* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1426H), 1:543-544.
- ¹¹⁶ Fakhruddin al-Zaila'i, *Tibyeen al-Haqayeq*, 4:88.
- ¹¹⁷ Justice Muhammad Taqi Usmani, *Takmilah Fath al-Mulhim*, 1:543-544.
- ¹¹⁸ Justice Muhammad Taqi Usmani, *Ahkam al-Auraq al-Naqdiyyah, Buhuth Fi Qadhayah Fiqhiyyah Mu'asarah*, pp. 143-172.